
قدیم ونایاب عربی، فارسی وعبرانی کتابوں سے انتخاب کیے گئے
نہایت زوداثر اعمال وطلسمات کا ذخیرہ

03444495555

خزینہ طلسمات وعملیات

مرتب
راجہ فیصل حمید
بابا محمد سلطان قادری قلندری

کتب خانہ شانِ اسلام
راحت مارکیٹ اردو بازار لاہور
فون: 37351120-042 — 4363585-0321



نسخہ دلِ شوہر مہربان کرنا۔

اگر عورت چاہے کہ دل شوہر کو مہربان کرے اپنے
اوپر اور شوہر سوائے اُس کے اور کسی عورت پر
نظر الفت و محبت نہ ڈالے تو ساعت مشتری
میں یہ طلسم لوح طلائی پر یا لوح ہفت جوش پر
کندہ کریں
بوقت کندہ گی بخور مشتری کا روشن کریں اور
کندہ خواہ کسی سے بات نہ کرے
یہ عمل حکما نے فن کے نزدیک بہت مجرب ہے
ضروری ہے بوقت ضرورت اس عمل کو تیار کرے ذرا
و شوہر میں محبت شدید ہوگی جب تک ہوں
پاس ہوگا جدائی نہ ہوگی

طلسم یہ ہے۔ ←

نسخہ محبت شدید

اگر کسی کو چاہیے کہ عورت سے محبت شدید
واقرار کرے
ہو اور مطلوب خود حاضر ہو کر محبت
تو یہ نسخہ بہت مجرب اور منظم ہے یہ طلسم امداد
سماء ہے اور واسطے محبت اور جذب القلوب
کے خاصیت خاص دیتا ہے ایک لوح لفظ خام کی بنا کر
اس طلسم کو اس پر دو مربع میں کندہ کریں ایک
مربع طالب کا ہے اور دوسرا مطلوب کا وقت
طالع زہرہ شرف شدہ میں و تثلیث ہے
لوح تیار کرے اس کو ہلکی آنچ میں دفن کریں جب
جیسے لوح کو گرمی اور آنچ ملے گی ویسے ہی
مطلوب کے دل میں محبت کی آگ جلے گی
یہ لوح اس جگہ پر کام دیتی ہے جہاں دو انجانے
دلوں میں محبت پیدا کرنی ہو
بخور زہرہ و مشتری سما کریں - مجرب و منظم عمل ہے

نسخہ محبت کشائی دختران ۔ نکاح و شادی

اگر بخت دختر بستہ کر دیا گیا ہو
بزور جادو و بندش اور بیٹی کی شادی اور عقد نکاح باندھا گیا ہو تو
تو یہ عمل زعفران اور گلاب سے کاغذ پر لکھیں اور منبع بنائیں
یہ طلسم بلقیس سات عدد بنائیں اور روغن زرد میں روشن کریں
اور ساتھ اس طلسم کے یہ نقش لکھیں اور آب و گلاب میں سحر زدہ کو
پلائیں بروز چہارشنبہ کو طلسم تیار کریں بخور ملفل سیاہ کریں

طلسم یہ ہے

۹وو۱۸۱۱۴۸۳۱

نقش یہ ہے :

سط	۱۱	مو	ح	جو
فو	ق	۱۰۰	۰۷	وعلم
مکے	سق	عو	۴۵	۳۵
۱۲	۳ کے	غ	۴و	۱۲۵

نسخہ میاں بیوی کی جدائی عمل

اگر میاں بیوی ہر دو کسی میں
لڑائی جھگڑا اور فساد ہو اور بات جدائی اور طلاق تک
ہو اور میاں بی بی کو طلاق دینے پر آمادہ ہو تو یہ
طلسم پوست ابر پر لکھیں آپ شیشی میں قدرے سرکہ
ڈال کر اس میں اس طلسم کو ڈال کر کسی پرانی قبر میں
دفن کر دیں میاں کے دل سے بی بی کو طلاق دینے
سے بعض آئے گا بعد دفن ہمیں مشرکہ نہ دیکھیں
اور دیگر عجائب ملاحظہ کریں
وہ آیت یہ ہے وہ یہ طلسم
والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم
القیامۃ وما طلو وطلو کمبعمص طلحو

لوح طالب

۴۷

۴۸ ۵۸	۵۹	۶۰
۴۹ ۵۷	نام طالب و مادر	۵۳ ۴۸
۵۰	۵۱	۵۲ ۶۲

۶۳

لوح مطلوب

۶۳

۶۴ ۷۴	۷۵	۷۶ ۷۰
۶۵ ۷۳	نام مطلوب و مادر	۶۹
۶۶ ۷۲	۶۷	۶۸ ۷۸

۷۹

نسخہ کسی کو محبت میں بے قرار کرنا

اگر چاہیے کہ کسی کو عشق و محبت میں بے قرار کرے تو یوں کریں کہ سات دانے انجیر کے لیں اور اُن پر یہ سات اشکال طلسم کی لکھ کر مطلوب کو کھلا دیں مطلوب آپ کے پیار میں بے قرار ہو اور تابعداری کرے

طلسم یہ ہے

4	3	2	1
عہ	ولا	سلہ	فطسم

7	6	5
عاھ	ددہ	ترا ا

نسخہ احضارِ محبوب

اگر مطلوب کو حاضر کرنا مقصود اور مطلوب ہو تو ایسا کریں آپ انڈہ سیاہ مرغی کا لیں اور اُس پر یہ نسخہ تحریر کریں یا کاغذ پر لکھ کر چپاں کریں اور اس بیضہ کو ایسی جگہ دفن کریں کہ اُس کو حرارت ملتی رہے طالع وقت برج آتشی ہو مطلوب کے دل میں محبت شدید پیدا ہو اور وہ طالب کے لیے بے قرار ہو۔

نسخہ یہ ہے

احرق قلب فلاں بن فلاں علی محبتہ وعشق وطوس ق وسہ و اطاعت فلاں بن فلاں

ملیخ سطوس احوس ملوس ملوس سعلوس سلیموس کلسلمو

مسلطاو سوس غناما ملوس اصفر وا محبت وعشق فلاں بن فلاں

مطیط ۱۹ سہ ۱۹ ط ہ ۲

و ۹۹۷۱۱۹۱۱۱ ک ۱۱۱۹۱۱۸۸۸ ط

۱۱۱ ۱ء ۱ ۱۱۱۱ ع ۱ط ۹ ۱۱۱ ۹ ممو ع ط ۹ ۱ ا ط ۸ ع ۱ع ۱ ۱ع ۱

۸ ۱۱۱۱ ۱ ۱ ۱ العجل ـــــ الساعۃ

نسخہ مطیع مہربان محبوب کرنا:

اگر چاہے کہ محبوب کو اپنے
مطیع و مہربان کرے تو یوں کہ کہ مطلوب کا پہنا ہوا
کپڑا حاصل کرے اور اس پر یہ اشکال بنا کر فتیلہ کرے
چراغ بنا ہو تصور محبوب برقرار رکھیں روغن چنبیلی یا
روغن زرد میں فتیلہ کریں

طلسم یہ ہے:

عول طللہ ھ سعوہ

۱ع۱

نسخہ میاں کو بستہ کرنا فعل بد سے

اگر چاہے کہ شوہر کو فعل بد اور حرام سے منع
کرنا یا اس کے تعلقات ناجائز اور غلط عورتوں
سے بیوی اور میاں کو اس زناکاری سے منع
کرنا مقصود ہو تو سورۃ الم ترکیف کو اس
ترکیب سے مردہ کے کفن پر تحریر کرے اس
کے سر کی طرف دفن کریں اگر کفن کا ملنا مشکل
ہو تو کاغذ پر لکھیں اور نام ہر اُن دونوں کے جن
سے ناجائز تعلقات آپس میں ہوں بھی اُس پر
تحریر کریں اور جانب طرفین قبر کے دفن کریں
دونوں کے مابین عداوت ہوگی اور اُن کا
رشتہ ناجائز ختم ہوگا

صورت عمل کی یوں ہے

الم ترکیف باجبرائیل فعل ربک باشمعائیل
باصحاب الفیل باکلکائیل المہ یجعل کیدھم
بانوبائیل . فی تضلیل بامکائیل وارسل علیھم
بااسرائیل طیرا ابابیل بامزرائیل ترمیھم
بحجارۃ من سجیل باکشفائیل فجعلھم کعصف
ماکول باکلکفیل باللہ نجیب

نسخہ تسخیر خلق

اکسیر ہے کہ جمیع خلق و انسان آپ سے عشق و محبت کریں تو اس مربع
آب باک
ولکن اللہ الف بینھم انہ عزیز حکیم
کو مربع ذوالکتابت میں لوح طلا یا لوح آہنی جوش
پر کندہ کریں غسل کر نوشت سے خالی ہے

[illegible] ٢٢٣	[illegible] ٢١٨	[illegible] ١٥٠	[illegible] ٧٨
١٥١	٧٧	١٧٣	٢١٧
٧٦	١٤٨	٢٢٠	٧٣
٢١٩	١٧٥	٧٥	١٤٩

عزیمت عمل :

عزمت علیکم یا معشر الجن والشیاطین ویا اصحاب السحر والوسواس
الخناس من الجنۃ والناس من جنود ابلیس بحق طٰہٰ
الرؤساء الجن والشیاطین یا خناطیف ویا ذو بجلۃ ویا
دغمش الدناطیش ویا سنقر نطقطش عجلوا الحق ذو بجلہ
وذو بجلہ ویا دغمش الدناطیش ویا سنقر نطقطش
عجلوا الحق البوسرۃ ابلیس وبحق وزعرہ سبدوث ابن سعد
زاسول وبحق دبجلہ وزوبعہ وبحق طٰہٰ الکل طمیش
طمیش افذا افذج بح عجلوا یا رؤساء الجن والشیاطین
ھیجوا ھیجان الشدید المتیج قلب ولسان وعیون وشھوۃ
لان فلان بن فلان علی محبت وعشق فلان زانجیدہ
فلان بحرقۃ العین الدموع والقلب بالجمر کمز والتقبل
بالاحتراق والجد بالفراق فلان بن فلان لا نوم ولا قرار
لہا باللیل والنھار بحق قمعولیش وشمونقاش وبلقافور
ھا الثعبان وسطروک مھرکوش العجل لا متیلے فالعجل


نسخہ بےقرار عشق میں کرنے کا :

اگر چاہے کہ کسی کو اپنے عشق
میں بے قرار کرے اور اس کے دل میں اپنا پیار و محبت
پیدا کرے تو یوں کرے کہ
ساعت سعد میں جب قمر نحوست سے پاک ہو
آتش میں اس طلسم کو بیضہ مرغ پر کندہ کر کے
آگ میں دفن کرے مطلوب بے قرار ہوگا
طلسم یہ ہے



نسخہ بغض و عداوت =

بغض و عداوت کے لیے یہ طلسم
جن دو کے درمیان عداوت ڈالنی مقصود ہو اور شرعی
اجازت ہو تو بے بول کریں نام ہر دو مع مادر
مکمل کر کے اس طلسم کو قبرستان یا مطلوب کی راہگذر میں دفن
کریں دونوں میں عداوت ہوگی



فلاں بن فلاں علی البغض فلاں بن فلاں

اسرع لمرضتہ الجن من برق لامع و بحق بہطلوا اثر
اُمپہ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ اندا نر ۱/۱ ۱/۱ بحق خاتم سلیمان ابن
داود اھیۃ بعرش الفباء ھربیہ العجل العجل
الساعۃ الساعۃ اوحا اوحا

نسخہ باب العشق =

اگر چاہیے کسی شخص سے محبت پیدا کرنا
تو یہ طلسم تعویز لکھ کر عرق گلاب سے اور بخور دے کر استعمال
کریں مطلوب محبت کرے

دادل رمزا العجل دال ٤٤٤   ١١٤٤ ط ٢٢ و د

درا سا ۲۱۴   ۲ اس ۲ ۸٤ لہ روا درد ال   ۲۱ و داع و ۲۱ دا

نسخہ زبان بندی

اگر کسی معقول اور جائز وجہ سے
کسی کی زبان بندی کرنا مقصود ہو تو یہ عمل کریں بحکم خدا
دشمن کی زبان بند ہو جائے گی یہ نسخہ بہت عجیب ہے
نااہل کے ہاتھ نہ پڑے گناہ ظلم ہے غلط استعمال اس کا
نسخہ یہ ہے

نسخہ کشائش رزق

اگر آدمی بے کار بے روزگار ہو
ملازمت و عنایت نہ ہو تو یا بذریعہ سحر جادو آدمی کے
رزق کو بند کر دیا گیا ہو تو یہ عمل استعمال کریں
انشاء اللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے مجرب المجرب
عمل ہے

۷۸۶

رب اشرح	لی صدری	ویسر لی	امری
۷۱۱	۳۴۴	۳۱۶	۲۵۱
۳۱۷	۲۵۰	۷۱۲	۳۴۳
۱۲۹	۳۴	۳۴۶	۷۱۳
۳۴۵	۷۱۴	۲۴۸	۶۱۵

نسخہ زبان بندی و موش

اگر چاہیے کہ کسی کی زبان بندی کرے
ضروری ہو کہ وہ خلاف ہو چکا ہو اور اُس کی محبت بشر الفت
ضروری ہو تو یہ نسخہ زعفران و گلاب سے تحریر کر کے اپنے
پاس رکھیں بحکم خدا اُس شخص کی زبان بندی ہو اور پیار
سے پیش آئے

یا قدوس	یا قیوم	یا رحمن	یا رحیم	یا ملک	یا قدوس	یا حی	یا خبیر	یا عظیم	یا خبیر	یا اسمعال
اسمعال	یا حی	یا رحیم	یا رحمن	یا رحیم	یا ملک	یا قدوس	یا حی	یا عظیم	یا خبیر	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

نسخہ حاضری

اگر چاہے کہ کسی کو حاضر کرنا تو یہ نسخہ چار عدد
لکھے اور استعمال کرے
یعنی چاروں عناصر کے ایک آب رواں میں دفن کرے
ایک ہوا میں لٹکائے دوسرا آگ میں دفن کرے تیسرا زمین میں دبائے مطلوب
میں دفن کرکے چوتھا بھاری پتھر کے نیچے
حاضر ہوگا مجرب ہے

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

جبرائیل

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر

نسخہ زبان بندی

اگر چاہیے کہ کسی کی زبان بندی کرنی
ہے کہ وہ اس کے خلاف نہ بولے یا اس کے بولنے
سے آپ کو نقصان ہوتا ہے تو یہ آیت اور اعداد طلسم
طلاء پر کندہ کریں ہمراہ اُن کے نام مع مادر جس کی زبان
بند کرنا مقصود ہو۔

عمل یہ ہے

صُمٌّ بُکمٌ عُمیٌ فھم لا یبصرون وجعلنا من بین
ایدیھم سدًّا ومن خلفھم سدًّا فاغشیناھم
فھم لا یبصرون

۸۱۱۲۲۱۳۲۱۸۱ کلیعص ۸۱۱۰۲۱۲۱۸

محمد ۱۲ ۲ ۱۲ ۱۳ ۲ ہمراہ

انا جعلنا علٰی اعناقھم اغلالًا فھی الی الاذقان فھم مقمحون

نسخہ کشادہ کرنا بستہ کو

اگر سحر جادو یا بندش سے مرد کو
بستہ کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے
گھبراتا ہو تو یہ طلسم سات مرتبہ لکھ کر اس کو نگلا دیں (اکیس یوم)
شہر روز پنجشنبہ کو یہ عمل کریں بستہ مرد کھل جائے گا

کا	لا	کو	ملا	کم	عاہ
سرہ	عاہ	ماکاہ	علی	ماکاہ	علا
گسلا	ااااا				

ج	و	د	ب
ب	د	و	ج
و	ج	ب	د
د	ب	ج	و

نقش محبت

اگر چاہے کہ تو کسی کے دل میں اپنی محبت
پیدا کرے کرو ہمیشہ تیرا مطیع و فرمانبردار رہے اور
کبھی تجھ سے بے وفائی نہ کرے تو یہ صورت طلسم لوح پار
میں کندہ کر۔ اور زیر لوح اپنا اور مطلوب کا نام لکھ
اور [crossed out] جگہ میں اس لوح کو رکھ اور پھر قدرت کے عمل
دیکھو اور یہ طلسم کاغذ خورد پر چار عدد لکھ ایک کو چولہے اوپر
پر لٹکا دیں دوسرے کو پانی میں بہا دیں تیسرے کو زمین میں دفن
کر دیں اور ایک مطلوب کی [crossed out] سے
ملتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیں
دیر عمل قدردان کے لیے ہے جاہل و نا اہل اس علم سے فائدہ نہ
دیں اور حرام کاری کے لیے استعمال نہ کریں یہ گناہ عظیم
ہے دین و دنیا ختم ہوگی اور گناہ خود غلط کرنے والے
کی گردن پر ہوگا

طلسم کل آگے صفحے پر ہے ←

نسخہ احضارِ محبت

اگر چاہیے کہ کسی شخص کو خاطر پر ستار دل اُس کے بس اپنا پیار پیدا کرے جس کے لغیر چین نہ آتا ہو تو یوں کرے ایک نعل گھوڑے کی لغیر سوراخ کی لے کر اُس پر نام اپنا مع مادر اور نام مطلوب مع مادر اور اس طلسم کو کندہ کرکے اُس کو روغن حیوانی دیگ کا اور شہد ملا کر ملکی آگ رکھو دیں مطلوب حاضر ہو طالع وقت قمر برج آتش میں ہو اور قمر ذا النور ہو جب طلسم کندہ کریں مطلوب کے دل میں اثر ہو

۱۲۷۹	۱۲۷۲	۱۲۷۷
۱۲۷۴	[illegible]	۱۲۷۸
[illegible]	۱۲۸۰	۱۲۷۳

نسخہ محبت شدید عمل

اگر چاہیے کہ کسی کو اپنا مطیع کرے اور اُس کے دل میں محبت پیدا کرے اور ہمیشہ اپنا بنا کر رکھے تو لوہیا مستی پر اس نقش طلسم کندہ کرے اور آگ میں دفن کریں کہ یہ جو سحر نام مع والدہ تحریر کریں

ہیلیبورش بجق البوعرۃ ابلیس طا۱۰۰۱

طا ۱۱۱ م ے الطرح دو الساعۃ

العجل العجل الحریق الحریق الحریق

اجیبوا اجیبوا فلاں بن فلاں

علیٰ حب فلاں بن فلاں

نسخہ محبت شدید

اگر چاہے کہ دو افراد کو پیوستہ محبت کا لگا دیں اور دونوں میں محبت پیدا کریں کہ کبھی بھی جدا نہ ہوں تو سورۃ یٰسین شروع سے پڑھیں اور اول مبین پر دھاگے پر پھونک کر ایک گرہ دیں کہ پیوستہ کردم قلب فلاں بن فلاں بہ قلب و جان فلاں بن فلاں پھر شروع سے پڑھیں دوسرے مبین تک اور پھر دوبارہ بھی یہی نیت محبت کی سے سورۃ کو پڑھیں۔ اس طرح سات گرہ لگائیں بہت مجرب عمل ہے

نسخہ احضار محبت

اگر چاہے کہ محبوب کو حاضر کریں تو ان طلسمات کو ایک قطعہ مس پر کندہ کریں ساعت مشتری کی ہو اور روز چہار شنبہ ہو اس لوح کو آب و گلاب سے دھو کر آگ میں دفن کر دیں مطلوب حاضر ہوگا اس میں آگے یہ زائد کر دیں بحق احضروا فی ہذہ الساعۃ فلاں بن فلاں بحق محبت فلاں بن فلاں

نسخہ حاضری مطلوب:

حاضری مطلوب کے لیے اس شخص جس کو حاضر کرنا مقصود ہو اس کے نام اس طلسم کو [illegible] نعل بے سوراخ پر کندہ کریں اور آگ میں رکھیں [illegible] نعل کو حرارت میں [illegible] ہے اور اس [illegible] پر کریں

طلسم [illegible]

نسخہ حصول و محبت:

اس طلسم کو ساعت سعید [illegible]

مثل پہ طلسم کو جس مطلوب حاضر ہو گا اور محبت سے پیش آئے گا

نسخہ کشودن مرد بستہ

اگر مرد بستہ کو کشادہ کرنا ہو
تو یہ طلسم بیضہ مرغ سیاہ پر کندہ کر کے سات اول
بروز جمعہ دوپہر کے بعد اس کو آگ میں دفن کریں
مرد بستہ کشادہ ہو


عمل یہ ہے

ھو لحس کا ۴کا ما۱۰ سم ع۶

علاوہ اس طلسم کے تخم بیضہ مرغ پر یہ عزیمت تحریر کریں
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرانا سیرت به
الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی
بل للہ الامر جمیعا ۱۱۱ لحـ آآ اا ھو

علاوہ اس کے مرد بستہ کو کشادہ کرنے کے لیے یہ
طلسم بیضہ مرغ پر لکھیں اور آگ میں دفن کریں

طلسم حاضری مطلوب



ان کانت
الا صیحة
واحدة
فاذا ھم جمیع
لدینا محضرون
الساعة العجلة
الساعة

طلسم یہ ہے

١١٤٣٦٢١١٠٩٩٩١٠٩١

اس نقش کو کاغذ زرد پر لکھیں اور محبوب کے گھر دروازے پر [illegible]

نسخہ حاضری محبوب =

اس نسخہ کو ٹکڑا ٹکڑا بریدہ محبوب کے پہنے ہوئے کپڑے پر لکھیں اور روغن بادام میں [illegible] میں دو دن تک فتیلہ کریں فتیلہ رات کو [illegible] کریں۔

طلسم یہ ہے

ممتا الفما منا نا نا نا نا نا نا نا [illegible]

[illegible]

بحق لیلطیقو ریش [illegible]

الحب فلاں علی محبت فلاں

نسخہ بخت کشائی

اگر بیٹیوں کے بخت بستہ ہوں اور کسی نے بذریعہ سحر جادو و بندش وغیرہ اور [illegible] کر دیا ہو یعنی ان کے لیے مناسب رشتہ نہ آتا ہو یا آئے پیغام نکاح نہ آتا ہو اور اس کو کھولنا مقصود ہو تو اس نسخہ کو لکھ کر دفن کریں چالیس دن تک پاس رکھیں انشاء اللہ بخت کشادہ ہوگا۔

نسخہ یہ ہے

کلما ٩١١١٠٢٢ [illegible] ٥٩٩

کلما لعطرہ [illegible] ١٩٩١١٥

و بحق الملک ١٧٦٩ [illegible]

طارتمل یا سبغوج یا جبیاہ یا ابو [illegible]

الا بلیس رب البلیس بحق ھذہ [illegible]

الاسماء ٦٦٤ [illegible]

نسخہ محبت شدید

اگر چاہے کہ کسی کے دل میں اپنی محبت والفت پیدا کریں کہ وہ محبت ہمیشہ رہے تو اس طلسم کو گوسفند پر کھیں اور مطلوب کے ساتھ آگ میں

عمل یہ ہے

سوختم دل وجان فلاں بن فلاں را بمحبت وعشق دعوی من فلاں بن فلاں

سحے · ع · ح

علق · المیعوا · اا · خلبنو · العجل · الساعة

نسخہ علاوہ محبت

اس عمل کو کتف گوسفند پر تحریر کریں اور آگ میں دفن کریں۔ بہت مجرب عمل ہے آگ میں دفن کریں مرتبہ

نسخہ مجرب محبت

یہ نسخہ شیخ شفا سے منقول ہے کہ اس عمل کی بدولت تمام دنیا مسخر ہو اور وہ سے محبت کرے بارہا تجربہ شدہ۔ عمل یہ ہے

اگر یہ اشکال طلسم کو لوح مس پر کندہ کر کے آگ میں دفن کریں تو عجائب ظاہر ہوں اور ایک دنیا

عمل یہ ہے

العجل الحی ق

الساعة

نسخہ زبان بندی

اگر چاہے کہ تمام بدگویان وعلماء (وحاسدان) برا چاہنے کی زبان بندی کرنی ہو اور حاجت مند بے کسی ہو اور ان کی زبان سے اس کو خطرہ ہو تو اس کے لیے نقش پاک کی لیں اور اس پر طلسم کندہ کریں ہمراہ بدخواہان کے نام کو تحریر کریں من من سے گریز کرنے کا خطرہ ہو خدا تعالیٰ بزرگ و برتر امان بخشے گا سلامت کندہ ہیں بے نام نیو

طلسم یہ ہے

٩ ٨ ـ ٨ ٢ ٣ ١١ ٠ ١١ ٠
٣ ااا ٣ ٠ ٩ ٠ ااا ـ ٠ ٣ ٠ اا ٠ ا ھ ٩ اا
عـ ٠ ا ٣ ٣ ٠ ٩ ٠ ااا عـ ٠ ا ٢ ا ٢ ااا ااا
٢ ااا ١ ٩ ١ ٠ ـ اا ـ ٩ مع

نسخہ محبت ہمیشہ ہو

اگر چاہے کہ کسی کے دل میں اپنی محبت والفت پیدا کرو اس کے وہ محبت ہمیشہ رہے تو اس طلسم کو سفید کاغذ پر لکھیں اور فلیتہ بنا کے ساتھ لگائیں

عمل یہ ہے

سوختم دل وجان فلاں بن فلاں را بمحبت وعشق وخوبی فلاں بن فلاں

بح ‖ بح ‖ بحـ ‖ بحـ

علق ‖ المیعوا ‖ اا ‖ خلیئو ‖ العجل ‖ الساعة

نسخہ علاوہ صب :

اس عمل کو کچے گوشت پر تحریر کر کے مردوں اور آگ میں دفن کریں بہت مجرب عمل ہے آگ میں دفن کریں مرغوب

اا اا ـ ااا ـ ااا ـ ااا طـ

سـ ا ٢ و ھ ٩ اا ا مالعا ھ ع اا ٨ ٢ اا ٨ اا ٠ ل العا العو

عـ ااا ٢ ٨ ٨ مم اا اا

نسخہ زبان بندی

اگر چاہے کہ تمام بدگویان و ملامت
والوں برا چاہنے کی زبان بندی ہو اور حاسدین
بے کس بیوا عمان کی زبان سے اس کو خطرہ ہو تو اگر
لوح نقرہ پاک کی لیں اور اس پر یہ طلسم کندہ کریں
ہمراہ بدخواہان کے نام کے تحریر کریں میں من من کے
آنے کا خطرہ ہو خدا تعالیٰ [illegible] رہبر تیر امان [illegible]
سلامت کندہ میں بنائی ہو
طلسم یہ ہے

٩٨ ٨ ١٢ ٣ ١١ ٠١١ ٠
[illegible]
[illegible]
[illegible]

نسخہ طلسم رجوع

سلامت سعد اور قوی ہو اس طلسم
کو لکھیں اگر کسی شخص کو حاضر کرنا ہو یا اُس کے دل میں
محبت ہو یہ اگر بی ہو تو حکام کے مطابق [illegible] کے
خانے پر اس مربع طلسم کو تحریر کریں اور نام مطلوب مع والدہ
لکھیں اور آگ میں دفن کر دیں تو [illegible] حرارت آتش
اور مطلوب کے زیر استعمال پہنے کپڑے پر لکھ کر
منسلک کریں دفن کریں مؤثر ہے [illegible]
چالیس عدد مقفل آگ میں 13 دن عمل ہیبت [illegible]
عبد مؤکل عمل یہ ہے

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	دلیل	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

نسخہ مستشفاء: اگر کوئی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ آرام نہ آ رہا ہو اور ما (قیا) اور تمام طبیب جواب دے چکے ہو تو مربع کاغذ پر زعفران مشک و گلاب سے لکھ کر پلائے شفائے مستشفاء کلی نصیب ہو اور اگر اس مربع کو لوح نقرہ پر کندہ کر کے اپنے پاس رکھے تو بلا اول اور پریشانی سے محفوظ رہے انشاء اللہ

ونُنزّل	من القرآن	ما هو شفاء	ورحمة
۱۴۳	۴۷۲	۴۳۳	۲۵۲
۴۲۵	۱۵۳	۱۴۴	۴۷۱
۲۵۲	۴۳۶	۴۷۴	۱۴۵
۴۷۳	۱۴۶	۲۵۱	۴۳۴

نسخہ اعظم محبت: اگر چاہے کہ مطلوب کو حاضر کرے اور جب تک وہ حاضر ہو اس پر تمام آرام و سکون حرام ہو تو اس کو ساعت مشتری میں لوح برنج پر کندہ کریں مشتری کے نکر سعد ہو اور قمر برج آتش میں ہو درمیان لوح اسم مطلوب مع والدہ اور اسم طالب مع والدہ قبر پر دفن کریں اور طالب خود اپنے دست سے آتش میں رکھے آدھی رات کے وقت مطلوب ... پاس مطلوب آ کر بے ...

احرقت قلب ومحبوبہ
علی حب و ... فلاں بن فلاں
علی حب فلاں بن فلاں

✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

نقش جلب الحب =

اگر چاہیے کہ کسی کے دل میں محبت
والفت پیدا کرے کر وہ آپ سے لفیت ہو کر
نہ پاوے تو یہ سات منر عجیب وطلسم کاغذ پر لکھیں اور
سات دن تک ہر ایک سات دانہ فلفل سیاہ
کے ساتھ ہر نقش تحریریں اور ساتھ اس کے ایک
نقش ہفت جوش نام اپنا مع والدہ اور نام مطلوب
کے اعداد کا بنائیں اور اس کو حرارت میں تو عجائب
غریب تحفہ پائیں اگر مطلوب قریب ہو گا تو روز
اسی حاضر ہو گا۔ بہت موثر عمل ہے

طلسم یکشنبہ =

عطفت قلب فلان بن فلان علی حب فلان
بنت فلان بحق ہذہ الاسماء ٦٥٧٢٨
٦٣٦٥٤٦٢٣ ٩ ٣١١٨ ٢١٢ محو اس ح
[illegible]

طلسم دوشنبہ

احرقت قلب فلان بن فلان علی محبة [illegible]
بن فلان وألفت بينهما المودة وال[illegible]
بحق هذه الاسماء حـ[illegible] ١ ٤ ٦ ل [illegible]
[illegible] سحلـه معر

طلسم سہ شنبہ

احرقت قلب فلان بن فلان واخذته و[illegible]
الى محبة فلان بن فلان وحرقته بالنار كما تحر[illegible]
هذه الاسماء توكلوا يا خدام بما امرتكم به هذا
الوحا بحق هذه الاسماء

[illegible]

طلسم چار شنبہ

توكلوا يا خدام هذه الاسماء والقلقطيريات
بالقاء المحبة والمودة في قلب فلان بن فلان بن
فلان وحرقوا رو فانتيـ الى محبة والمودة
في قلب فلان بن فلان لا يقدر له الليلاً ولا نهاراً
ولا يقع له امر بحق هذه الاسماء وخدمتها عليكم

[illegible]

٢١٦٧١١١١

٧١٦١١١ ٦١٢

طلسم پنجشنبہ

توكلوا يا خدام هذه الاسماء بحق الملك الموكل
عليكم الطائعين [illegible] ان توكلوا

لجذب قلب فلاں بن فلاں

بن فلاں و توقع لقوا بینهما بالمودة والمحبة

بحق هذه الاسماء علیکم ولقرئوا

هیطل هیطل کان اجمع حیل حلطلطل

کان جمعه توکلوا یا خدام هذه الاسماء بجلب

وجذب قلب فلاں بن فلاں الی محبت فلاں

بن فلاں والقوا بینهما بالالفة والمودة بحق

هذه الاسماء

١٣ ١٢١٣٩٣ ٢٦١٧١٣٩

لعکلمه

طلسم تسخیر

توکلوا یا خدام هذه الاسماء المبارکة

وکلوا روحانیة المحبة والمودة والالفة

بین فلاں بن فلاں وبین صحب فلاں بن فلاں

بالمودة الدائمة بحق هذه الاسماء

علیکم وطاعتها الحکیم

نقش المودة

واسطے محبت کے ہے اس عزیمت کو

تخم مرغ پر لکھ کر دو آگ رکھو جیسے جیسے حرارت ملے

مطلوب بے قرار ہوگا یہ طلسم روز بخشا ہے

کو اس وقت دفن کریں جب قمر برج آتش یعنی
حمل قوس اسد و عقرب میں ہو
طلسم یہ ہے ۔

سحر بل لما عرفا الظہر صعا
سطح دوحح العجل العجل العجل الساعۃ
الساعۃ الساعۃ الوفا الوفا اجیبوا اجیبوا اجیبوا

نسخہ احضار و محبت

ان طلسمات کو نعل بے سواری
یا سفال کورہ جس کو پانی نہ لگا ہو لکھ کر آگ میں
دفن کرو مطلوب بے قرار ہوگا ۔
طہاس کعوس ذموس ہلس باد لطیلعع بالمو
لوس لموشوس ععارت

نسخہ حاضری محبوب

ان حروف کو تختہ سیاہ پر
حاضری مجرب ... لکھ کر آگ کے نزدیک دفن کریں
مطلوب بے قرار ہوگا
جب قمر برج آتش میں ہو تو یہ عمل کریں
قرنی قلب فلاں بن فلاں علیٰ محبت فلاں بن
فلاں بلح سغوس اعوس ملوس ملوس سعملوس
ملیہوس لیاسلو منلوطارسوس عاھا ملوس احفت
فلاں زادہ فلاں علیٰ محبت وعشق فلاں بن
فلاں لہ رکلمان محمد تمکن لسلملو کعملو
مسلما بالاسم الذی لان الحدید لداود
وسخرہ بالاسم الذی سخر اللہ بہ الریح لسلیمان
بن داود علیہما السلام

١١٩١٢٨١٢١٢٢١٢١ ٣١١١ ٥ ١٢١٢١٥

العجل العجل الساعۃ

نسخہ عشق و محبت ۔

اگر اس طلسم کو چوب بید پر لکھیں بہت

موثر عمل ہے

ح ل و م لسلسلحوہ داہ اندباہ قرمنت

حب فلاں بن فلاں برائے حب فلاں بن فلاں

نسخہ زبان بندی

اگر چاہیں کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہوں اور ان کی زبان بندی مقصود ہو تو اس عمل کو لوح طلا یا برنج پر کندہ کرو یا سفید کاغذ پر تحریر کر کے ہمراہ ان تمام کے نام جن کی زبان بندی کرنی ہو تحریر کر کے بدگویان بیٹھے سب زبان بند کر لیں گے

عمل یہ ہے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لا الہ الا اللہ از آسمان تا زمین لا الہ الا

اللہ از زمین تا آسمان لا الہ الا اللہ از آسمان تا عرش

لا الہ الا اللہ از عرش تا کرسی لا الہ الا اللہ از کرسی تا لوح

لا الہ الا اللہ از لوح تا قلم لا الہ الا اللہ از قلم تا نور

رب العلمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

بستم زبان جملہ دشمنان و بدگویان و غمازان و حسودان

و خصمان شب و خصمان روز و خصم سیاہ و خصم

سفید و از زمین بستم زبان تمام بنی آدم از سفید و

سیاه و زرد و سرخ و بنات حوا را در حق
این هیکل بحق لا اله الا الله محمد رسول الله بستم
زبان و چشم و سینه و نشست و شش رگ
و بنات حوا را بسوی صاحب این هیکل بستم
بستم بسته باد زبان جمله خصمان از اولین و آخرین
را بحق توراة موسی و انجیل عیسی زبور داود
و صحف ابراهیم و فرقان محمد مصطفی بستم
شش هزار و ششصد و شش آیات کلام الله
بستم که بسته باد چشم و گوش و دست و پای
بدگویان بستم بحق صد و چهارده سوره کلام الله
بستم بحق حروف تهجی ا ب ت ث ج ح خ د

ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک
گ ل م ن و ه لا ی ه ة سه
بستم با. بحق دوازده ماه و سی روز و روز بیست
و سی شب و هفته هفت روزه
و چهار ساعت بحق دوازده برج حمل ثور جوزا
سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی
دلو حوت بستم بحق هفت کواکب سیاره زحل
مریخ مشتری شمس زهره عطارد زمین بستم
بحق عرش و کرسی لوح قلم صراط میزان و بهشت
دوزخ بستم زبان بدگویان را بحق کعبه و زمزم
و حجر الاسود و مقام ابراهیم و رکنها بحق صفا و مروه
و صفا و منی و کعبه ابو قبیس و مسجد الاقصی
و مدینه و کربلا و نجف و مشهد امام رضا علیه السلام
و بحق خاتم سلیمان بن داود بستم زبان دشمنان را

عمل تسخیر و محبت خلق

اگر چاہے کہ تمام خلقت پیار و محبت
سے پیش آئے اور سب پر غالب رہے وہ یہ تعویذ
اس آیت کو مرغ سیاہ کے خون سے لکھیں ہمراہ اس آیت مبارکہ کے

والقیت علیک محبۃ منی والتصنع علی اعینی
از تمشی اختک فتقول هل ازلکم علی من یکفله
وحبناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن
وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک
فتونا

از نرینه و مادینه بحق ناپطای معلم و کلام
قدیم بحق لا اله الا الله محمد رسول الله کو مسخر
بحق محمد رسول الله منظر کردم بحق ...
طالب و بحق وجعلنا من بین ایدیهم سدا و
خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون صم بکم
عمی فهم لا یبصرون فهم لا یرجعون بحق ختم الله علی
قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب
عظیم عقدت لسان بنی آدم و حوا ہر ... صاحب ...
بحق هذه الآیه وجعلنا من بین ایدیهم وتبارک الله
احسن الخالقین بستم زبان جمیع بدگویان و حسودان ...
و مفسدان و قماجان از هر نژاد سیاه و سفید ...
[illegible] بطرف صاحب این طلسم ... بحق لا اله الا
الله محمد رسول الله

نسخہ حاضری مطلوب = کہ اس طلسم کو چار کاغذ

اس کے پوست پیاز و سنیہ بسونان

پر لکھ کر بہا دیں اور چار کو

گرد میں = جلد خوشخبری ملے گی

آ آ آ مصو

۹۹۹ ۸ ھ ش ۸

محمد

السمغا ققققق قق بجتی داہ

اندہاہ ھندھو لاداہ اباہ بجتی چاچلو نفندکنر

کونا آو آو آو ۱۹۷۱

الاسم اصلہ ۹ مامامما

سی مرز ۷

فتم الساعة

نسخہ برائے محبت و حاضری

برائے محبت و حاضری

کے لیے یہ عمل ۱۲ عدد لکھیں کاغذ زرد ہو ہمراہ نام

و مطلوب معہ والدہ کے

العجل العجل الساعة العجل ۱۲ ۱۱ ۸۸

الہا پھیلفیوریش

لا نوم ولا ینا فلاں بن فلاں احضار بحرف فلاں

بن فلاں

ضرب بہ بنقشطاری =

عمل محبت

اگر چاہے کہ کسی کو اپنا
تو ایسا کرے کہ ایک قلم مرغ سیاہ کا لے کر
عزیمت و طلسم لکھے اور اسے آگ میں
3 دن تک۔ بعد طلسم کے مطلوب کا نام بمع والدہ
فلان بن فلان ... وبه محبة فلان بن
جلد آئے
طلسم یہ ہے۔

لـ ... ۱ ۱ ... سلو

اصوس طوس بحق سلیمان بن داود علیہ السلام
عمن محبه طمعمعم ...
یا طلسمعمعم بحق خاتم سلیمان

عمل فروخت مال

اگر مال تاجر و سامان فروخت نہ ہوتا ہو ...
... فروخت کرنا چاہیں اور دل تنگ ہو کر ...
یا جب تک ہی فروخت ہو ... نقصان ہو رہا ہو ... مال فروخت
... فروخت ہو جائے ...
کسی ایک نقشہ میں ہر کنندہ کر دیں ... ہو جائے
کرنا ہو سیاہ دن کر دیں فروخت جلد ہوں گے

... سلوع

الصمد ... علی

۴۲۲ ۱۱ ۴۰۵ ...

السامۃ السامۃ السامۃ العجل العجل [illegible]
احضرو منا م خلق زادہ حوا ابن آدم فی هذا
المکان بحق جبرائیل اسرافیل عزرائیل [illegible]
بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین

نسخہ حاضری مطلوب

اگر خواہش ہو کہ مطلوب حاضر [illegible]
دے اور یا منہ [illegible] دعا کرے تو ان حروف کو نقل [illegible]
پر کندہ کر کے آگ میں دفن کریں

آل آل آل آل ۲ [illegible]

[illegible] ۹۹۹ [illegible]

[illegible] حاضری [illegible]

اگر صاحب کو مطلوب کو حاضر [illegible]
[illegible]

[illegible] ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورت تو یہ [illegible]
[illegible] استعمال کریں بہت مجرب ہے
[illegible] حاضر ہو گا [illegible] اور اس کو بلانا
[illegible] کسی لوہے پر [illegible] آہنی پر [illegible]
[illegible] اس طلسم کو لوح [illegible]
[illegible] مطلوب [illegible]
[illegible] آگ میں دفن کریں [illegible] اور اگر مطلوب
[illegible] دیوانہ وار حاضر ہو گا اور اگر مطلوب [illegible]
[illegible] ہو کر اسم مطلوب [illegible]
[illegible] طلسم کے نیچے کندہ کریں [illegible]

[illegible] یا [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

اس مربع کو

عمل احضار مطلوب:

حاضری مطلوب کے سبب اس مربع کو آگ میں دفن کریں

کرکے آگ میں بھی ڈالیں

سوراخ پر کندہ کرکے آگ میں بھی ڈالیں

اور ٤٧ دانہ فلفل سیاہ بھی پڑھ کر ڈالیں تو ایک لوح

اور کندہ کریں آجری (انجام) پر بربع یہ نقش کندہ کریں

اور جوش بنائیں اور اس پر یہ انتظارہ کریں

اور آگ میں رہیں اور مطلب

اور نمیث بکس

هذه احفروق

باشعونا باشعبونا باشعیثا فلان بن فلان

المکان فلان بن فلان سل حب فلان بن فلان

البلاغ العجل العجل الساعة

الرقی الرقی الرقی اجیب

غ	ح	ص	ج
٩٩	٤	٩٩٩	١٠١
٥	٩٢	٤٩٨	٩٩٨
٤٩٩	٩٩٧	٧	٩١

لمعاشی کلوقیش لکیشی لکواشی ریاشی

لاشی کراشی طاشی اجبا معا بالاسم

المکتوب علی جمعته المتوکل التسخیر العلوی

سواسی سواسیں دن دن بہ تبہ ولاولا

صو سیلاسی سخت لموسیٰ بہ قلب رجل

احضروا واحرقوا قلب فلان بن فلان علی حب

فلان بن فلان . حاضر شوقا الساعة الساعة

العجل العجل العجل الوحا الوحا الوحا النار النار النار

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

بازنہ بجمع الی مراد

هو اللہ الذی لا الہ الا هو

عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم

الذی لا الہ الا هو الملک

القدوس السلام المؤمن المهیمن

العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما

یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور

له الاسماء الحسنیٰ یسبح له ما فی السموات

والارض وهو العزیز الحکیم

احضروا فلان بن فلان

احرقت قلب شهوة

وجوارح فلان بن فلان

علی حب

فلان بن فلان

نسخہ کشائش وفتح

اگر فتح کشائش اور مشکلات
زندگی دور کرنے ہو تو
ہر غلبہ پانا ہو اور مطلب براہ
اس مربع کو لوح طلا یا برنج پر ہمراہ اسم فتاح پر
علم کندہ کریں
باشد تمام خلق ملک حب فلاں بن فلاں

۷۸۶

ح	ا	ت	ف
ف	۴۷۲	۱۳۳	ت
ی	۴۵۲	۳۳۴	ا
ط	ی	ف	ح

نسخہ کشائش روزی

اگر کوئی شخص بہت غریب ہو
اور ذریعہ معاش نہ ہو اور تنگی سے گھبرا گیا ہو
تو یہ لوح نقش پر ہمراہ اسم غنی کندہ کریں
اور اگر کشائش اور وسعت درکار ہو تو اسم
سکہ و طلا نکس (مخلوط) پر یہ نقش کندہ کریں ہمراہ
اسم غنی کندہ کریں ہرگز محتاج نہ ہوگا

۷۸۶

رسول الله	محمد	الا الله	لا اله
۱۱۲	۶۲	۹۸	۸۱
۲۹	۲۷	۱۱۷	۱۱۸
۱۷۹	۱۳۷	۱۲۷	۷۸

تعویذ محبت والفت کے واسطے محبت والفت کے

واسطے مطلوب کی گذرگاہ میں ۔

اس طلسم کو موم پر لکھ کر ایک نگینہ کی ساخت

میں دفن کریں اور ایک پاس رکھیں [illegible] اول آفتاب

اول جمعرات ہے اور دفن کرنے کے لیے

۳ شنبہ ہے

کسعلعا الما ملعا کمعا [illegible] قل ہیہے ۔

شعیعثا سما بیعا [illegible] ۲۰۱۲ ۱۵۱۴ ۱۹۹۱

رو کا کمعا

ان حملعہ مہمہ عل حکا

کمعا لا لا ال

تعویذ [illegible] لڑ نہ جائیں

اگر کسی قبیلہ کی یا جمعیت یا خاندان میں لڑائی ہو کرتا

قبیلہ کی [illegible] کرنا ہو تو اس آگ [illegible]

آب مردہ یا آب چاہ سے ہمراہ نام ان کو [illegible]

کرنا مقصود ہو لکھ کر قبر میں دفن کریں یا گھر [illegible]

لڑائی ختم ہو دعوی ختم ہو ۔

وهوطذه به به ال ٧ ال ٧ او رقه [illegible]

حجر محر ۸ [illegible] ابج [illegible] ٤٤ كسع [illegible]

حرمه سمه حب به له [illegible] فلان [illegible]

فلان آوارہ گردد فرس کونے الله ان يقول

كن فيكون سبحان الذي ملكوت كل شئ واليه

ترجعون بسم لنزيل [illegible] فلان زاده فلان [illegible]

السا السا [illegible] الوحا الوحا العجل العجل الذرا الذرا [illegible]

[illegible] مسا وج [illegible]

نسخہ زبان بندی :

یہ عمل محمد سکا استاد ...

کا ہے استاد زمانہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی
بندی کرنی ہو تو ہفت جوشن لے ۱۲
اور اس عمل کو ساعت زبانبندی میں کندہ
نام اپنے اور جن کی زبان بندی کرنی ہو
کریں سب بدگویان منادی حاسد
دور ہو اور سب کی نظر میں عزیز و محترم
آسان ہو
عمل یہ ہے :

مخنو ثمیٔ و مخ لا یبصرون باذن اللہ تعالی لا
فہم لا یرجعون ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱ ۳۳۳ ۲۲
۵ ۹ ۳ ۳ بحق اللہ فہم لا یکلمون لا لا لا لا ... اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم حم حم حم بکم بکم بکم عمی عمی
فہم لا یرجعون بستم زبان بدگویان و بدان

دارندہ ابیہ ما بحق
ودچشم بدو نظر بد را بر دارندہ ابیہ ما بحق
فہم لا یبصرون لا ینطقون بستم زبان فلاں
بن فلاں بروی فلاں بن فلاں بحق فہم لا یعقلون
فلا ینطقون بستم بستم بستم بستہ باد زبان
جمیع خدایان از گبر و نصاری و یہود سیاہ و سفید
ذرد و سرخ بروی ما ماقب الطلسم بحق فہم
لا یعقلون

نسخہ برائے فتح و سرداری

واسطے فتح اور سرداری اور ہر غرض کے اس مربع نقش کو جب مشتری نحوست و رجعت سے خالی ہو اور زہرہ سے نزدیک ہو یعنی مشتری ذھرہ بس مثلث باہم ایک بیں لوح طلا پر کندہ کریں اور محفوظ کریں تا کہ کامیابی سرخرو ہوں اور فتح و ظفر ہو

۷۸۶

د	ی	ج	ا	
۱	۵۳ر	۴۲ر	ن	
ھ	۲۷۱	۱۲۳	۱	
ر	س	۱	ن	

نسخہ طلب فرزند

حدیث کی کتابوں کے مطابق پر عمل اذن اپنے بازو چپ پر ~~...~~ میں باندھے عرصہ جماع کرے لفرمان خدا تعالیٰ فرزند صالح پیدا ہو

نقل یہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ھو ھو ھو ھو ھو ھو ھو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حمٓ حمٓ حمٓ حمٓ حمٓ حمٓ حمٓ حمٓ قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ۔

نسخہ طلب فرزند

یہ حروف سبوحاً لوح طلا القدوس پر کندہ کریں اور زیر کر ناف پر عورت ایام مخصوصہ سے دو لفیہ قبل باندھے رب چاہے تو حمل ٹھہرے

علے علے علے علے له له له له له له لعبه به بحج به

بے به بہ صوصوصوصوصوصو لا الہ الا اللہ

محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصلی اللہ محمد

وآلہ

نسخہ طلب فرزند

یہ عمل طلب فرزند جناب شیخ محمد [illegible]

سے ہے کہ اگر کسی کو طلب فرزند ہو تو وہ اول [illegible]

کو شب جمعہ اول ماہ رب العزت سے طلب

کی دعا مانگے ہوئے اور دل میں زبانی شک [illegible]

ہوئے طلاعہ پاک پر کندہ کرے وقت کندہ کرنے کے

اس طلسم کو شمس اور عطارد کی آپس میں نظر سعد کی

الشعاع ہو خدا کے بزرگ و برتر کے کرامات اور [illegible]

ملاحظہ کریں یہ

خدایا بزرگ فرزندی لمن کرامت کرده بسب اسماء

عمہ گرد [illegible] قدوس رب العالمین [illegible] الاکرم اللذین [illegible]

[illegible] فاطر السما الملک القدوس [illegible]

[illegible] به ۱۰ [illegible] بنام فلاں بن فلاں زن [illegible] فلان [illegible]

عمل حبیب

برائے محبت خلق و تسخیر [illegible] نسخہ

[illegible] پاس رکھیں تو خلقت محبت سے پیش آئے

[illegible] کی زبان بندی ہو

[illegible] کو طلا پر کندہ کریں تو سریع التاثیر ہو جاتے

[illegible] کے دل میں محبت پیدا کرنا ہو تو اکثر عجیب

[illegible] ہو جاتا ہے اگر نہ پانی میں پلائیں تو بے حد محبت

[illegible] ہے اگر سحر زدہ جادو و سحر باطل کرنے کی

[illegible] زعفران سے لکھ کر پلائیں تو

[illegible] باطل ہوتا اور نحوست ختم ہو

[illegible] دفتر کشادہ کرنے ہو جو سحر جادو سے

[illegible] گئے ہوں اس کے سب ہی موثر ہے سحر

[illegible] ختم ہو اور محبت دفتر کشادہ ہو

عمل یہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لا تکلم الیوم ختم لقوۃ

75

الله على افواهك صدى العلماء مقيّبت هذا الله
لبنات الجن والشياطين لمن اسمعهم من كل وآخذ
بالله قلب و فؤاد فلان بن فلان فالله وامري
في قلب فلان بن فلان كما قلبت والقيت
عليك محبة مني والتصنع على من يكفله فرجعناك
الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا
فنجيناك من الغم وفتناك فتونا سريعا

شدید ۱ المحبہ

۱۱ ک ک ۱۱۱ ۹۹۲۲ ک العجل ال معینی ساعو

سح فلل یا سلطالع یا سنحیقا یا المیموگا یا شعین
یا جالینوس بالوس یا مبین منا یا ملیکگا یا مسطالکف
یا فیقوثرن یا محال بن یا شیا یا ام شغی لع یا مسطح
۷ ط ۰۹۳۳ ۲ ل ط ۲۱۲ ط ۲۱۱۲ سبع ومعد الله

شیخ عمل برائے بغض و جدائی

اگر چاہیے کہ عورت اور مرد کے درمیان
بن کے آپس میں ناجائز تعلقات ہو جدائی ڈالنی
ہو کہ ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی ہو جائے
تاکہ ان کے تعلقات آپس میں ختم ہو جائیں تو
سورۃ زلزلہ اس صورت میں لکھیں اور قبرستان میں کسی
لحد یا اس کے گھر میں دفن کر دیں ان کے درمیان
عداوت و دشمنی ہوگی

سورۃ زلزلہ حروف منقطع میں

رل ارش ہ رزل اق ش
ا ل ا ع ی ن ا وہ ری اوی ح ۃ
رزل اق ش ا ل ا ع ی ن ا ف ھلا ا ع ا ا د
رل اث اث شی اس ان ل اردس ی ذ
ی + اھ ل ی ح واث ث ون اب + اھ داث
خ اث د ح ت ذ ح اوی + ادل ا ان اسن ا ا
ل اق ب ل اھل اق ش امن رال ا ث ج رح اود
اھل ادل ذ فی جال اث ل ذل ر اذا اسما
ہ سہ فرق بین فلان بن فلان و فلان
بن فلان سرد کردم آوارہ کردم فلان
بن فلان را از فلان بن فلان
اج دع ذ ظ

اس دائرہ کو مطلوب کے گھر میں دفن کریں ان
میں دشمنی عداوت و جدائی ہوگی

عمل حاضر مطلوب برائے محبت

اگر چاہے کہ کسی کو حاضر کریں
اس طلسم کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں گولی بنا کر ڈال دیں
طلسم یہ ہے ۔

لمعععصلو طمساھاو ۳ ق ووہ ااا
عزم ق ااا ط لا ا ا م ااا ج

اجیبو یا معشر الجن والشیاطین احضروا فلان بن فلان
بحق [illegible] و علی حب هذه البیت و علی
حب فلان بن فلان العجل العجل العجل الوحا
الوحا الوحا اجیبو الحریق الساعة الساعة الساعة
اس طلسم کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یہ پڑھیں
حاضر کردم فلان بن فلان اور ایک سو ایک مرتبہ
[illegible] دانہ فلفل سیاہ پر ایک میں ڈال کر محبت
[illegible] آگ میں 13 دن تک جلائیں

نسخہ ربانی قیدی کا

عمل جناب شیخ محمد سکا سے

اگر کوئی محکوم و قیدی ہو اور اس پر اس کی خواہش
ہو کہ اس قید سے نجات پا لے تو اور بادشاہ یا
حاکم اس کی رہائی کا حکم دیں اور انسان درمیان
بادشاہ و بزرگان و اکابر کے نظروں میں نیک و محترم
ہو اس عزیمت کے پڑھے ۴۱ دن اور اس شکل
میں ہر بعض مورد کندہ کرے اور آگ میں سرخ کرے
میں نام فلاں بن فلاں اور چالیس نقش دوسرے
کاغذ پر اور پانی میں گولیاں بنا کر ڈال دیں اور ڈالتے
وقت یوں کہیں یا صاحب الزمان اس طلسم کو
سے فلاں بن فلاں کی حاجت روا کر
اور اس عمل کو رہائی محبوس تک جاری رکھیں
مجرب عمل ہے عمل یہ ہے

عزمت علیکم یا اصحاب السحر والوسواس

الجن والشیاطین من جنود ابلیس بحق ھذہ
الرؤساء الجن والشیاطین یا خناطف و یا
ذو لبعۃ و یا دلھش الدناھش و یا مستفر نعطفش
تحلو بحق الوترۃ ابلیس بحق ذھو سبوک
رسہ داشول و بحق ربعۃ و ذولبعۃ و بحق
البعہ و بحق ھذہ الکلام لھش لھش انذ انہ
ہج تحلو یا رؤساء الجن والشیاطین و تھیجو
بہیجان الشدید المھیج المھیج قلب و لسان
وعیون و شھوۃ فلاں بن فلاں بمحبت و عشق و جنون
و دوسہ والامانت و قبول قول فلاں بن فلاں

~~الجن المحبۃ بصغر و بحما بطرشۃ العین~~

طریقہ عزم محبت

عقد تو بحما بطرشۃ العین العین فی الاعمی
والقلب بالحرکۃ واللون بالاحتراق والجسد بالقربان
قلب فلاں بن فلاں علی محبت و سحر فلاں بن

فلان بن فلان ... آكيل ... [illegible]

[illegible] بالیل ... بحق شمهوطش ... [illegible]

وبلقافوريد الشعبان وسطرود ... بحق [illegible]

الكلام الهب الهب الساعت ... بين [illegible]

آسرع بحرمة العين وجمع البقر بحق [illegible]

افيه ١٠١ ١٠١ اذانه ١٠١ ١٠١ ١٠١ بحق سليمان بن داؤد

اهية بحرمة العناء ... العجل و ... بحق [illegible]

واسود وافقر واحمر وحما كل وشيان وسمند [illegible]

وطام ابن صيم دجابون وابليس وعنبة [illegible]

ابلبس وذو بعة القيار وابن صيطفور بحق [illegible]

رشن وصه ديوان و ... بيهرش گرد [illegible]

العجل العجل العجل الوحا الوحا الساعة

الساعة الذمر الذمر الحريق الحريق [illegible]

حب والعشق

اگر چاہے کہ کسی کو اپنے عشق میں

[illegible] اور اس طلسم کو آگ ... دیں یا چراغ

[illegible] یا کوری ... پر لکھ کر آگ میں دفن کر دیں

[illegible] ہو شریں

طلسم یہ ہیں

[illegible] ١٢ ١١١ ٧٩٢ ١١١ ع ١١١١ ١٢٣ ٧٢ ٢

[illegible] ١١١ ٦ ١١ ٧ ث ب ١ ١١١ ط ١١١ ٩ ٤ ٤

[illegible] قلب فلان بن فلان بمحبت وعشق

فلان بن فلان هذه الاسماء العجل العجل العجل

الساعة الساعة الوحا الوحا الوحا

احضار و محبت

عمل محمد بن سکا ہے کہ اگر مطلوب
حاضر نہ ہوتا ہو یہ موثر و مجرب سے مجربہ نسخہ
تانبے کی تختی یا نعل بے سوراخ
(محمد لا الٰہ الا اللہ کرام) ہمراہ نام پشت پر
نقش ملث فلاں بن فلاں
مطلوب کندہ کریں اس طرح پر فلاں بن فلاں
الحب مطلوب واگر مطلوب کے دل میں
احضار بطرف فلاں بن فلاں
محبت پیدا کرنی ہو تو یہ کندہ کریں انذا ختم محبت
فلاں بن فلاں
فلاں بن فلاں دا ابدل و جان و روح فلاں بن فلاں
اور آگ میں دفن کریں اور پاس بیٹھ کر یہ عزیمت
پڑھیں
یا طیوش یا مالیوش اباسہ داہ تین دن آگ
دیں مطلوب بے قرار ہوگا راحت قرار نہ پائے
اور سامنے میں حاضر ہوگا

عمل الحب محبی

نسخہ باطل سحر و کشائش کار:

اس طلسم کو کاغذ پر لکھ کر اور
پیس پانی میں ڈالیں یا نہائیں تین دن تک عمل
سحر باطل ہوگا کشائش حاصل ہو برائے کشائش کار
موثر عمل ہے۔

	۰۹۳۲۰۹۶	۲۰۹۹۰۰۵۵	۷۰۰۴۱۹۰	۲۸۰۰۵۶۰۰	۱۴۰۱۱۴۰
	۲۰۱۸۰۱۲۰۰۹	۰۰۱۲۸۰۹۷۳	۳۰۱۳۰۱۱۳۰۰	۱۲۰۱۸۷۰۰	۱۱۳۰۱۱۳۰
	۱۲۰۳۱۷۰۰	۱۱۰۰۷۱۳۰۱۱	۰۱۲۰۰۱۷۰۰	۱۱۰۱۲۰۰۹۱۱۶	۱۸۰۱۳۰۰۷۰
	۱۸۰۰۳۸۱۰۰	۱۱۲۰۰۸۱۷۰۰	۰۸۱۰۲۳۱۱۶	۰۱۸۳۷۰۰	۱۱۳۰۱۱۳۰
	۹۰۱۸۷۰۰	۸۱۰۲۴۷۱۱۰	۱۰۱۳۲۰۰۷۰	۱۳۰۰۵۱۷۰۰	۱۱۳۰۰۹۷۰

اعمالِ قوی

اگر چاہے کہ کسی کو حاضر کرے
اور ساتھ
سوراخ کی لیں اور
نعل آہنی لغیب
جلد ہو تو نعل آہنی لغیب سوراخ کی لیں اور اس پر
کہہ سے تمام کو تنہائی میں اس پر
لغیب مجموں اور آگ میں دفن کریں اور
کندہ جو ں اور آگ میں دفن کریں
کا نظارہ کریں۔

غائب ہو
المملوشِ المملوش
تملوشِ هنوشِ قیطوشِ الملوشِ
راہِ اللہ با وموشِ لوشِ تراشِ عزمت علیکم یا معشر
الجن والشیاطین هیبو هیجان اللہ بد لبیت قلب
و شمو فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں
لو کو یا خدام هذا الاسماء اغبار کنز و حرکوا روحانیۃ
الی محبت و المودۃ فی قلب فلاں بن فلاں
محبت و طبع و سحر فلاں بن فلاں
اللہ هم ۷ ۹ ۱ ۱۱ س س س

العمل الثانیۃ

نعل کو آگ میں حرارت اتنی رکھیں کہ مطلوب
کو نقصان نہ ہو

نسخہ سفر بخیریت

اگر کوئی سفر کا ارادہ کرے سفر کا [illegible] اُس کو شبہ ہو کہ سفر خیریت نہ ہوگا اور نقصان کا خدشہ ہو تو اس مخمس کو لوح دو جوش یا سرپوش (قلعی لوہا سکہ) (تانبا لوہا چاندی) دھات پر کندہ کر اور دفن کر دیں یا ونڈن میں رکھیں یا کاغذ پر لکھ کر گھر [illegible] دیں یا دیوار پر کیل سے لگا دیں بحکم خدا مسافر [illegible] ہو

۲۸۶

قول جبرائیل

	ح	و	د	ب
ب	د	و	ح	
	ح	و	د	ب
ب	د	و	ح	
	ح	و	د	ب

الحب والعشق

اگر چاہے کہ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے اور مطلوب کو اپنے عشق میں [illegible] کو کورا ٹھیکرا پر لکھیں [illegible] قرآن طلسمات [illegible] میں دفن کر دیں

طلسم یہ ہے

سوختم دل وجان فلاں بن فلاں بہ محبۃ فلاں بن فلاں (طلسم یہ ہے)

۱۱۹ ۳ ۱۱ ۹

[illegible]

۸۸۵۷۴۸۹۵۱۱۸۸۴ سوختم دل وجان فلاں بن فلاں

الرفیق الربق الحوق السلسہ ۳

نسخہ حاضری مطلوب


اگر مطلوب یا محبوب کو حاضر کرنا مقصود ہو تو یہ نسخہ ابریشم سیاہ لے کر اس پر سات گرہ لگائیں اور ہر گرہ پر یہ کہیں حاضر شود فلاں بن فلاں بطرف فلاں بن فلاں بوجہ عمل پڑھے

اِنا جعلنا فی اعناقھم اغلالا فھی الی الاذقان فھم مقمحون

نسخہ حاضری مطلوب =

اگر چاہے کہ کسی کو حاضر کرے تو اس نسخہ کو [illegible] پر تحریر کریں ہمراہ [illegible] سوزان حاضر شود [illegible] لکھ کر گندہ کر کے آگ میں گندہ کریں تو مطلوب فوراً حاضر ہو اس عمل کی قدر کریں اور نا اہل کے ہاتھ سے محفوظ رکھیں

[illegible] مطلوب کو حاضر کرنا چاہے تو اس [illegible] مطلوب کی نیت سے سات [illegible] حاضری مطلوب [illegible] فلاں بن فلاں را بطرف فلاں [illegible] سات دانہ فلفل سیاہ [illegible]



نسخۂ احضار آتشی:

۹۱

اگر چاہیے کہ کسی کو اپنے پاس حاضر کرے
تو اس طلسم کو نامہ پر بوقت مجب ظہر یا مغرب کے لکھ کر
آگ میں ہمراہ سات دانہ فلفل سیاہ کے دفن کریں
اگر کوری ٹھیکری پر لکھ کر دفن کریں تو اثر قوی ہے
اور فتیلہ لکھیں تو نیچے یہ لکھیں احضار فلاں بن فلاں بحبہ
فلاں بن فلاں فتیلہ بنا کر گھی ماٹے میں روشن کریں
بہت موثر ہے اور اگر بکرا کے شانے پر لکھ کر آگ میں
ڈالیں حاضری محبوب کے لیے بہت موثر ہے

ح	۱۲۴	سبوحہ	یہس	ھو
[illegible]	[illegible]	طہ	سطع	ی
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ق	سم	[illegible]	[illegible]
ں	وھلہ	سالہ	[illegible]	[illegible]

چالچکر اغند کو ماد سہ ۵ ۱ ۵ ۱ ۱ ۵

[illegible] حاصل [illegible] کھال لی کے

[illegible] والیس پیغام نکاح

[illegible] کر آپ ہیں دفن کریں

[illegible]

[illegible]

الغافورین

[illegible] اسلمہ [illegible]

[illegible]

[illegible] العمل

[illegible]

[illegible] اجیبوا الوفا

مقابلہ یا مقدمہ

اگر کسی سے مقابلہ یا جھگڑا ہو جائے

[illegible] اس کے شر سے آپ تنگ

[illegible] مقدمہ کر دے یا اس کے شر سے [illegible] جائے تو اس

[illegible] دشمن [illegible]

[illegible] ہیں دفن کریں دشمن [illegible]

اور آپ خلقت معنا و محترک یوں گے

عملا ۲۷۷۱ ق لیحا اہ مہ ۱۱ ۵

م م ھ ۵ ۹ م

مجسللو ہ دہ وہ وہ حا محلہ

سی ۹ لسو علمسا عسطمار

دد۱۲ اشل ۱۱۱۵

نسخہ احضار محبت

سکہ پا کاغذ پر لکھیں اور آگ میں رکھیں

مجرب شدہ و مجرب عمل ہے

یا طالبوس یا مالیوس آیا سبدہ احضار فلاں بن فلاں محبت فلاں بن فلاں

مطیع و رام کرنا مطلوب

اگر چاہے محبوب سے دل میں

جگہ بنا اور اس کو مطیع و فرمانبردار کرنا ہو اور

جس سے ملنا ہو تو نکاح کرنا ہو تو اس نقش کو

ساعت سعد میں مربع میں کندہ اور بخور اس ساعت

ساعت ہو دیں مطلوب مطیع و فرمانبردار ہو گا اور

آپ کے کسی حکم سے سرگرداں نہ ہو گا

٢٨٦

حی	ق	لو	مالک
ملاث	٥٧	١٩	واحد
١٠٢	٢٠	٨٩	٣٤
محبت	٨٨	٢١	مصون

فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں

نسخہ برائے کشائش کار و فتح

اگر فتح اور کشائش کار درکار ہو
تو اس نقش معظم کو طلاء پر کندہ کریں و ہمراہ رکھیں [illegible]
موثر ہے برائے وسعت رزق و فتح اور [illegible]
جاتی ہے سعد بار ہیر آویزاں کر دے تو ادر بوشر ہو جائے
اور خلقت مہربان ہو اور رزق روزی کے دروازے کھل
جائیں

٧٨٦

الوکیل	العادق	الرقیب	الرقیب
العادق	الوکیل	الرقیب	الرقیب
الباق	الرقیب	الوکیل	[illegible]
الرقیب	الباقی	العادق	الوکیل

[illegible] الاحوال [illegible] و کشائش

اگر کاروبار میں خلقت میں ... ہو
اور کوئی سا تعویذ ہے تو
اگر کسی کو کوئی شخص کام آتا پڑا ہو اور کوئی ... یا سکہ طلاء نقرہ
[illegible] پر کندہ کر دیں اور پاس رکھیں کام بگڑ دے بفضل خدا
[illegible] بن جائے

٧٨٦

الخلاق	العادی	الخبیر	الرغب	الرصوب
العادی	الخلاق	الرغب	الخبیر	العلیم
الرغب	الرغب	الخلاق	العلیم	الخبیر
الرغب	العیوب	العلیم	الخلاق	العادی

[illegible] سحر و نحوست ختم

اگر کسی پر سحر و جادو [illegible]

عنت دفعیہ سحر جادو سے بستہ گئے ہوں یا سحر [illegible] کر دیا گیا ہو تو اس طرح کریں

باطل کردم تمام سحر [illegible] لباس ان سلامی

عمل یہ ہے

وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

بسم الله الرحمن الرحيم انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي

الى الاذقان فهم مقمحون يا الله يا الله يا [illegible]

حنان منان ديان سبحان برهان

[illegible symbols]


[illegible] محبت [illegible] اس شکل کو [illegible] جلائیں بہت موثر ہے

ع۱۹	ے	ک	ش
۸۱	۸۰	۹۹۵	۱۳
۵۷	۹۹۶	۵۵	۲۲
۹۹۷	۸۲	۲۳	۱۲۵
	۱۲۶	۹۹۸	۱۸

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

نسخہ مرد شہوت بستہ

اگر شہوت مرد کو
بستہ کرنا ہو کہ وہ غیر
عورتوں سے زنا و شہوت
نہ کر سکے تو ایک لوح طلاء
و برنج مخلوط بنائیں
اور اس پر طلسم و آیت
کندہ کریں ساعت عطارد
و مریخ یا مشتری شمس
تثلیث ہو قمر ذالد النور
ہو لوح مکمل کرنے کے بعد
اور جعبہ سیاہ میں اس کو
رکھیں اور لوح کندہ کرتے
وقت یہ پڑھیں



بستم ذکر فلاں بن فلاں
برنج تمام نعمائی عام بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین
چند روز میں وہ مرد باز آجائے گا

اس لوح کو ہر روز پوست پیاز اور پوست سیب سے بخور
دیں

نسخہ بستن شہوت مرد

اگر چاہے کہ مرد کو بستہ کریں
کہ وہ کسی عورت سے بدکاری
و زنا پر قادر نہ ہو سکے اور کسی عورت سے بدکاری
پر ... تو ایک لوح مس طلا پر کندہ کریں اسد و ہفت
... جس کو بستہ کرنا ہو اور اس لوح
پر مطلوب ۳ لکھیں جس کو بستہ دفن کریں
کو کنارہ آب یا نہر کے کنارے دفن کریں
اور اس کے ساتھ جو طلسم ہے اس کو تخم مرغی پر لکھ کر درخت
کی جڑ میں دفن کریں بہت موثر عمل ہے

طلسم یہ ہے

تعقیلیا ہا تعشیا معوہا تمہیا بحق هذه الطلسم
تحبلشا یا غیشا ہا ہ ا ہ ا ہ ا ہ اندرز ا ہ ا ہ ا ہ ہولا لادہنا
دایا وہوطا و بستم بستم بستم باد ذکر فلاں بن فلاں

نقش محبت خاص ۱

ایک ہزار ایک مرتبہ یا ایک
سو ایک مرتبہ۔ پڑھ کر چینی یا حقانی پر دم کر کے
مطلوب کو کھلائیں بفضل خدا مطلوب کے دل میں
محبت پیدا ہو۔
آیت مبارکہ یہ ہے۔
مایفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان
اللہ شاکرا علیما

نقش محبت خاص ۲

محبت کے واسطے ۱۰۱ ایک ہزار ایک
مرتبہ شیرینی پر دم کر کے مطلوب کو کھلا دیں مطیع ہوگا
آیت مبارکہ یہ ہے۔
والقیت علیک محبة منی ولتصنع علی عینی یا ودت
عائیل۔ بحق یا بدوح یا عنائیل

زابر فرج ذہانی عالم

ی ۵۹۹	م ۲۰۵	ع ۹۷۰	م ۳۰۴	ش ۹۹۹
سط	مھہ	سعما	مھہ	مھما
دد	لملہ	[illegible]	داہ	وح
۷۲۲	ن	ب	ب	ا
س	ـر	۵	مھرم	۱۲۹

فلاں بن فلاں سبحہ ذکر زابر فرج ذہانی عالم

نسخہ احضار و محبت ۹

یہ عمل جناب شیخ محمد [illegible] سے
[illegible] مطلوب کے دل میں محبت پیدا
کرنا [illegible] اگر مطلوب کو پاس لانا حاضر کرنا مقصود ہو
تو اس طلسم کو مشک و زعفران و گلاب اور عرق بارش سے
لکھ کر [illegible] مطلوب حیران و پریشان حاضر ہو
جائے گا مجرب عمل ہے

[illegible] محبت [illegible]

احضر و فلاں
بن فلاں بہ محبت
وعشق فلاں بن
فلاں

نسخہ احضار و محبت ۱۰

اگر چاہے کہ مطلوب کو حاضر کرے
یا اس کے دل میں پیار پیدا کرے تو اس شکل کو
گھوڑے کی نعل پر لکھ کر آگ میں دفن کرے ساعت
سعد میں عمل کرے وقت

اجب یا خ ن اس

١١ ٢٢ ١٧ ١١ ھ ٨٨٨٨ او ١١ ع

احضر و فلاں بن فلاں
علی محبۃ و سخر و سطیع
فلاں بن فلاں

١٣ ٨/٨/٨

٩١٠١١١١

... برائے ... محبت

... چاہیے کہ کسی کے دل میں
... پیدا کرے یا محبوب
... کرے ... میں
... خلاف ہو اور ان
... بندی مطلوب ہو
... زبان ... کرنا
... طرف ...
... نام مطلوب
... لکھ کر لوح سے ...
... اور ... ہو اور ...
... اور جس کو دوست یا محبوب
... مطلوب ہو اس کا نام ...
اور اگر زبان بندی کرنی ہو تو
... زبان بند ... خلق الناس
... کرو

نسخہ حاجت برآری

اگر کسی کے پاس کسی حاجت سے جانا ہو اور ہو کہ وہ انکار نہ کرے تو اس طلسم کو کف دست پر کندہ (تحریر) کرے اس کے پاس جائیں مطلب پورا کرے گا

لـ ١١١١ ۵ محـ ٢٢٢٢٢٢ ط طـہ

نسخہ برائے محبت و حاضری

اس نسخہ کو کاغذ زرد پر لکھیں اور مکڑی کے دل میں دونوں طالب و مطلوب معہ والدہ کا نام لکھ کر کنارہ آگ میں دفن کریں کہ حرارت ملتی رہے بہت موثر ہے مدت عمل 3 دن ہے

نسخہ حاضرات سلیمان =

احضار سلیمان

اگر محبوب سے ملے بنا آرام نہ آتا ہو یا دور ہو چین و قرار نہ ملا ہو تو اس طلسم کو لوح پارہ کیف جو فش پر بلا عدد بنا دیں ایک کو ہوا میں لٹکا دیں دوسرے کو پانی میں بہا دیں تیسرے کو زمین میں دفن کریں

اور چوتھے کو آگ میں رکھ کر حرارت دیں عمل کی سلامت

سعد ہو ادا اگر پشت آسیب ہر تکوے بہلہ ۱۰۷ فلاں ۱۵

احضار و غیب =

اگر چاہیں کہ مطلوب کو حاضر کردیں اگر چاہتے ہیں ... اس پر چینی یا مٹی پر عمل کر کے جو سعادت ہے نعل پر ... دفن کردیں

یا اہل النار و ابلیس

۱۱۱ ط یا اہل النار و ابلیس ۵۵ ...

اہل النار برا اسمعہ ۱۱۱۱۸ ادم لس ۱۲ ۱۷ یا ابلیس اطلان

۳۳ یا ذالهش یا ملعونا احضروا واحقودل وشعوۃ فلاں بن

فلاں محبۃ فلاں بن فلاں

٣٥٩	٣٦٢	٣٦٥	٣٥٢
٣٦٤	٣٥٣	٣٥٨	٣٦٨
٣٦٣	٣٦٧	[illegible]	٣٥٧
٣٦١	٣٥٦	٣٥٥	٣٦٦

نسخہ زبان بندی

اگر کسی کی زبان بند کرنی ہو تو
آیت پاک اور اعداد ملا کر ساعت سعد میں [illegible]
کریں سامنے زبان سے کہتے جائیں حاسد زبان [illegible]
[illegible]

عمل یہ ہے

[illegible]

انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم
مقمحون ۔

بہت مجرب عمل ہے اور بارہا کا تجربہ شدہ ہے
دشمن جس کی زبان بندی کرنی ہو اس کا نام
لکھیں

نسخہ دشمن شہر بدر

اگر چاہیے کسی کو خانہ بدر یا شہر بدر کرنا
اگر چاہیے تو اس ظالم کو [illegible] دشمن
اس کا نام [illegible] میں دفن کریں ۔

[illegible]

فلاں بن فلاں

نسخہ مطلوب کو بے قرار کرنا

چاہیے کہ مطلوب کو بے قرار کرے
[illegible]
بسم اللہ الرحمن الرحیم [illegible] فلاں بن فلاں
[illegible] فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں

ااا۸۸اا اا اا ااصلااا۸اا۴۸اا ۱۹ ـــ ۳ا۸۷ااا

۵۵ ۱۰۹ ۵۵۵

نسخہ حاضرات

اگر چاہے بلا ناغہ کو اپنی طرف کر وہ دست بستہ اعداد ... پر قلم سے بیضہ مرغی پر شب جمعہ یا دن جمعہ یا سہ شنبہ کو لکھ کر آگ میں دفن کریں مجرب ہے کاموں کے سبب نہ کرے

اااللے ۷۷۷۷ ط اا ۴ ۰ ۷ ۹ ۱۱ ۷ ط ـــ ۷ ۱ ا ۱۷۷ ۲۷

الم ع د ع ان ۱۱۱۸ فلاں بن فلاں احضار بطرف فلاں بن فلاں

فلاں واسطے حاضر مطلوب کے = یہ نقش بروز ہر روز جمعہ لکھ کر ہوا میں لٹکا دیں

اسم طالب و مطلوب بجائے فلاں لکھیں

۹	و	د	ب
ث	ح	ہ	ط
و	ح	ب	د
ح	ط	ہ	ہ

عورت اور مرد میں رسوا اور بدنام

[illegible] اور جدا کرنا

اگر چاہے کہ کسی کو غلطی میں رسوا اور بدنام کرے اس کوشش اعداء ایذا ... سزا دی جاوے تو ... [illegible] ... سورۃ القارعہ ... [illegible] ... چالیس ... [illegible] ... نقش ... [illegible] ... اس طرح ... [illegible] ... نقش گھر میں رکھا جاوے ... [illegible] ... ان دونوں میں ... عمل تمام ہو گا ۔ ان دونوں ... [illegible] ... پاس آ جاوے گی ۔ اگر ... [illegible] ... اور عورت ... خاوند ... [illegible] ... دشمنی اور کدورت پیدا ہو ... [illegible] ... قبر میں رکھیں ... [illegible] ... یہ نقش کفن مردہ پر لکھیں اور ... [illegible] ... ان دونوں کی پرانی قبر یا ... [illegible]

برائے محبت خلق وکشائش

یہ ہے باعواآکی محبت
محبت و دشمن خلق کے سبب روزی کے لیے
اور کشائش کار اور وسعت روزی کے لیے
کشائش ہو ساست شش ماہ میں کندہ کریں اور ایک
الااللہ پر ساست و درستی پیدا ہوگی اور نزدیک
کشائش میں الفت و دوستی پیدا ہوگی
خلقت نزد واحد اللہ بہ جمع

٧٨٢

وانہ	الحب	المنیر	الشدید
الحب	وانہ	الشدید	المنیر
المنیر	الشدید	وانہ	الحب
الشدید	المنیر	الحب	وانہ

دفن کریں دونوں میں دشمنی ہوگی بہت موثر عمل ہے
عمل جہاں جائز اور حلال ضرورت ہو وہاں کریں
حرام کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور آتش جہنم
میں اس کا ٹھکانہ ہوگا

برائے محبت و اتفاق ہونا

اگر تو چاہے کہ خلقت میں باہم محبت و اتفاق ہو تو یہ آیت ہرن کی جھلی پر زعفران و گلاب سے لکھ کر اپنے پاس رکھے بہت موثر عمل ہے

آیت مبارکہ

والف بینہم وبین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز الحکیم

برائے دیوانہ پاگل کے لیے

اگر کوئی دیوانہ مجنون ہو تو یہ نقش اس کے لیے لکھ کر دیں انشاء اللہ شفایاب ہوگا

بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ الذی سبحان اللہ الکریم القدیم العظیم ہلال بن ہلال

۱۱ط۱۱۹و۹۱۱ط۱

۹۱۱۱۱ط۱۱۱و۷۹۶۶۶

نقش برائے مسافرت آسان

اگر چاہے کہ سفر بخیر و خوبی ہو تو اس نقش کو لکھ کر خانہ طالب کے گھر میں دفن کرے سفر میں پریشانی دور ہوگی

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم

مسافرت نزود

ہلال بن ہلال

نسخہ شہوت بند مرد

اگر چاہے کہ مرد کسی غیر عورت
کے پاس نہ جاوے اور کسی بھی
غیر عورت سے برا سلسلہ نہ کرے کر
اس طلسم کو چار جوش لوح پر بروز
جمعہ ساعت اول میں کندہ کریں
اور سات رنگ کے تار ریشم کے لے
کر ۲۱ گرہ دے ساعد ہر گرہ پر یہ کہے بستم شہوۃ فلاں بن
فلاں راہبوی تمام زنان عالم اور اسم کو ۶ (سات) گرہ
لگا کر عمل ختم کرکے ہر سات مرتبہ پڑھیں

یا عثمان بن سعید و سید جی بطلسم اللہ کی ہوا سے بچے
یا قبرستان میں دفن کردیں اللہ سے مرد ہرگز اس پر ظلم
نہ پاسکے گا

نسخہ کشادہ کرنے مرد بند:

پوست بید اللہ ریشہ ...

کوط جا آدم کے نام سے اور طلسم کو دور کرنے کی سبب

... اللہ پر طلسم لکھیں -

یا اخوۃ یا حبیبنا ابوۃ بازم دم خ بن خ را

۱۱۱ ... مسلسلما

۱۱۷ ... لسوول

باز -

نسخہ خاص جگہ شادی کرنا

اگر خواہش ہو کسی جگہ یا خاص لڑکی سے شادی کرنے کی تو ہفت



لوح ہفت جوش کی
بنائیں اور سات سعد میں
اس پر یہ قلم کندہ کریں اور
سعد وقت عود پر آگ میں
ڈالیں - چہار شنبہ کے بعد عمل
کریں جب آگ میں دفن
کر دیں تو یہ پڑھیں سوختم
دل و جان و شہوۃ فلان بن
فلانہ ازدواج نماید با فلانہ بن فلانہ اور اگر چاہے عورت کے
مرد کے دل میں محبت پیدا کرے تو یہ قلم لوح [illegible]
طلا [illegible] اور مس پر بنائیں - یہ تعویذ دعائیں ہم وزن [illegible]
اور تین دن کمر فلفل سرخ و عرق گلاب میں ڈالیں
اور پھر آگ میں ڈالیں اور اگر چاہے کہ کسی انسان کے
نزدیک ہو اور وہ آدمی بات قبول کرے تو کاغذ پر
لکھ کر سات دانہ فلفل سیاہ رکھ کر بتی بنائیں

شادی کا نسخہ خاص ہے

اگر چاہے کہ کسی خاص جگہ لڑکا خاص
[illegible] کوئی بھی انکار نہ
[illegible] کرانی ہو بیوی بنانے اور خوبی سے ہو جائیں تو
[illegible] اور تمام معاملات خیر و خوبی سے دل فتح ہو جائیں
[illegible] اور کوئی سلیم ہو جائے اور سب [illegible] ہو نے میں [illegible]
[illegible] کر اس مدور لیں جگہ تنہائی کی ہو [illegible] سعد ہو
[illegible] کر اس لوح مدور کو بخور کریں ساعت سعد میں
[illegible] اگر اس لوح [illegible] نظر سے [illegible] مریخ نزدیک
[illegible] برج آتشی میں ہو اور زحل برج خاکی ہو اور مریخ نزدیک
[illegible] بانشیب ہو اور نزدیک [illegible] لوح تمام کریں -
عطارد کے ہو - اس وقت

~~[illegible] سلیمانی [illegible]~~

اور پڑھیں -

طلسمات سلیمانی و مشتبہ بلقیس تین شب [illegible]
اور یہ طلسمات [illegible] ملکہ [illegible]
کریں - اور مریخ کا سعد [illegible] اور [illegible]
۱۲۵ مرتبہ پڑھیں [illegible]

طلسم پریت



...پہ پڑھیں۔

فلاں بن فلاں ازدواج کند فلانہ بنت فلاں اسرائث

ابرجیبلطفورش ہو بالقیطبفورش بالحالبوث بامارش

ابامیدہ

[illegible] کو بنا دیجئے

[illegible]

ساعت دن ماہ و سال

سعد و نحس و ایام عمل

[illegible]	محبت و عشق و تسخیر القلوب [illegible]
[illegible]	زبان بند بستن [illegible]
[illegible]	جدائی [illegible]

[illegible]	صورت ابجد کبیر	[illegible]

ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠

س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ
٦٠	٧٠	٨٠	٩٠	١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠

ض	ظ	غ	
٨٠٠	٩٠٠	١٠٠٠	[illegible]

بعد از چهار ساعت آخر هر ماه برای تخریب بسیار [illegible]

این لوح همراه هر کس باشد روزی او زیاد گردد که ماه را مانند هر ماه [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	٢٨	٩١	٦٢	١١٣
	٤٣	٧٨	٢٧	٢١	٦٢
	٤٣	٧٨	١١٧	١١٨	١٧١
	٢٧	٨٧	١٣١	٢٠١	ج

[illegible]

محبت ... اگر چاہتے ہو مطلوب



... کرتا ہو اس کے ... سامنے ... اور اگر ... ذیلہ ... مطلوب ... اعمال نسخے ... سعداں ہے

کر ریشم میں لپیٹ کر رکھیں طالب اپنے گھر میں کرے

اور ساتھ میں دن سات دانہ فلفل سیاہ اور سات

دانہ چل دل اور مقدر سے سر کے کر اس میں عرق

اور پانی ڈال کر اس کو (لعاب) اس میں گھول دیں

3 دن تک اس میں رکھیں

عمل نمبر

نسخہ محبت و زبان بندی

اگر عورت چاہے کہ شوہر کی نظروں
میں عزیز ہو اور جب کبھو شوہر غضب میں ہو تب مہربان ہو اور نا
رغبت دار ہو اور خلقت کی نظروں میں معزز و مکرم ہو
اور سب لوگ بد
اور زبان والوں
کو بند کرے
تمام فن کے شر
سے محفوظ رہے
اس لوح کو
لکھ کر جو شخص
بنا دیں اور علم اس
کے تب کنندہ
کریں وقت



کنندہ ہو گی بخورات کا استعمال موافق ساعت کریں اور
تحلیہ روز منٹ کرکے بمعہ مبلغ لوح تیار ہو جائے تو ایک
چینی کے برتن میں پانی ڈال کر غروب آفتاب کے
بعد کھلے آسمان تلے رکھ دیں تا کہ کواکب اس پر

منعکس ہوں صبح طلوع آفتاب
سے پہلے وہ برتن وہاں سے اٹھا لیں اور پانی کو
اس پانی میں چینی ملا کر شربت بنائیں
اور اس پر محبت نام و طلسم پڑھ کر
دم کر کے شوہر کو پینے دیں

نسخہ محبت و زبان بندی خلقت کے لیے یہ نسخہ

جناب شیخ محمد سے منقول ہے وہ اس کو کتاب
سے لائے تھے۔ ہندو پنڈتوں سے سن
مولانا سے استفادہ کر دیں جاہل اور نااہل کو اس کی قدر نہ
کرام استفادہ کر دیں اور خود تحقیق کر کے
پر اس پر علماء مغرب یونان اور خود موکل کے
تحقیق کر کے اس نسخے کو موثر بنایا کہ یہ موکل کے
ساتھ جو ہمیشہ موکل کے ساتھ رہتا ہے اور صاحب طلسم
جمیع بلاؤں نحوستوں سے محفوظ رہتا ہے باقی جو
حکم رب



ام بن م بق الملك دكدھام رادطہ



نسخہ محبت شدید =

اگر چاہے تمام مرد یا عورت
سب اُس سے پیار محبت سے پیش آئیں
یا مرد چاہے کہ عورت کے دل میں پہلا بنا ہے



تو لوح ہفت لوح کندہ کرکے موم جامہ اور
پاس رکھیں وقت کندہ ساعت سعد ہو۔ اور اگر میاں بیوی
میں ناراضگی ہو اور نوبت طلاق تک ہو تو یہ اس لوح
کو ۲۱ عدد لکھیں اور سب کے دھونی بخور کی دیں
اور میاں کو دیں - اگر اپنے گھر میں وزن
اور باقی ... کریں ۲۱ بہت نشانی ہو اور محبت کو قائم ہو
مجرب عمل ہے

نسخہ احضار و محبت

اگر مرد چاہے کہ عورت کو اپنے عشق میں گرفتار
رکھے اور سخت دکھے عورت کو تو
دعوت کرے اس پر عمل تیار کرے
عمل فوراً کام کرے
ساعت عمل شمس و زہرہ
تثلیث ہو اور عطارد
مشتعل ہو اور اس پر اسم
مطلوب مع والدہ اور نام طالب
مع والدہ لکھیں اور بہ دعوت
مع بہ رد بنائیں۔ اور ساتھ ساتھ
ریشم میں لپیٹ کر رکھیں اور
رات کو دو ساعت عمل
تنجیم سے گزاریں۔ بعد اس
کے سورۃ یٰسین شریف
۱۱ مرتبہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں انما ختم محبت

فلاں بن فلاں ملاں بدل جان و روح و قلب فلاں
بحق سورۃ مبارکہ یٰسین و کہیعص و طٰہٰ
ازین ... طالب و مطلوب
پھر جس کا نام طالب
ہے اس کو مرد ہو کر
عورت میں دفن کریں
آگ میں دفن کریں یا
عورت پاک ہو کر
لوبان رکھا جائے
لنگر کے دکھا جائے
اگر آپ میں رکھنے
سے دیکھیں مطلب
حاصل ہوتا ہے تو
پھر مطلب کے وقت ہر
اس کی آگ میں رکھ
دیں مجرب عمل ہے
اور ہزاروں کا تجربہ
پھر پورا اثر ہے

ریو تو اس

[illegible] خواست [illegible] آگ میں دفن

[illegible] شدہ ہو

سلوب

پیارے

لو ور

مذہب

وہ طالب

کاغذ پر

اور برج

برج جلا

آگ میں

[illegible] کے ساتھ دوست دانہ فلفل سیاہ کے ہمراہ آگ میں

بہت موثر عمل ہے

ڈالیں

نسخہ فراق وجدائی

دو شخصوں

فراق اور

جدائی

اس عمل

[illegible]

[illegible]

جن کے

جدائی

[illegible]

کا نام [illegible]

[illegible]

نقش برائے محبت دل میں پیدا کرنے



نقش برائے محبت دل میں [illegible]
[illegible] داخل [illegible]
[illegible] و [illegible]
[illegible] ۳ [illegible]
[illegible] اور اس [illegible]
[illegible] کندہ [illegible]
[illegible] سعد ہو
[illegible] کندہ [illegible]
[illegible] میں [illegible] اور [illegible]
[illegible] دل [illegible]
[illegible] پانی میں [illegible]
[illegible] اور [illegible]
[illegible] اس میں [illegible] اور [illegible]
[illegible]

[illegible] سے [illegible] کریں
[illegible] مطلوب [illegible]
جگہ نام طالب و مطلوب [illegible]
مجرب عمل ہے

نسخہ محبت کشائی محبت زوجین

محبت کشائی اور محبت زوجین کے لیے اگر [illegible]
کے ساتھ دشمنی و عداوت [illegible]



کی صورت
[illegible]
کشادہ [illegible]
لیے یہ لوح محبت
جوش اس کو
پر بناتی اور
ہر طلسم اشغال

لوح نقش میں بنا نام [illegible] اور ان آدم محبت
و عشق زوجین [illegible] ۳ بن [illegible] و سودہ [illegible]
کے ہمراہ کندہ [illegible] اور [illegible]
میں سے کوئی [illegible]
انشاء اللہ [illegible]

نسخہ عمل محبت خلق

محبت خلقت اور شہرت ہے یہ عمل بہت
مجرب عمل ہے یہ شخص جو کوئی اپنے پاس رکھے



زبان بندی خلق
و محبت عزت
حکومت ہے
سحر و بابل کے
حلال عمل ہر
کوئی سحر جادو ٹونہ
اثر نہ کرے اور

کشائش کار میں برکت ہو اور ہر کام آسانی ہو یہ عمل شرف
اور خورشید کو کسی ساعت اول سعد میں لوح ہفت جوش
درجہ دوم ملاد یا برج پر کندہ کرے بخود اسفندان
یوسف گھنٹہ یک روشن کرتے رہیں اور ہمیشہ
اپنے پاس رکھیں بہت اول عمل ہے

نسخہ احضار و محبت ۔

اگر چاہے کہ کسی کو اپنے پاس [illegible]
دل میں اپنے [illegible] محبت [illegible] اگر [illegible] تو
[illegible] پر 3 عدد نقش
لکھیں ایک گز [illegible] مطلوب
میں دفن کریں دوسرا
ہوا میں لٹکا دیں اور تیسرا
آب رواں میں [illegible]
بنا کر ڈال دیں اور



اگر لوح مس پر کندہ کیا جائے تو اثر بہت ہوتا ہے
اور اگر [illegible] پر لکھ کر مطلوب کو پلایا جائے تو اثر ذرا دیر
سے ہوگا



[illegible] تیار کریں اور اس پر یہ طلسم تیار کریں اور ساتھ
[illegible] کندہ کریں اور [illegible] پر لکھا
[illegible] طلسم اس پر [illegible] ہو طلسم تیار
[illegible] میں یہ طلسم [illegible] اس [illegible] دیں
مطلوب [illegible] اور نام [illegible] اس [illegible] نشان [illegible]
کرا کے لکھیں اور چار [illegible] اس [illegible] ہو گا کہ مانند
مرد اس طرح مطیع ہوگا

نقش حاضر مطلوب



اس طلسم کو پارچہ پر کندہ
کریں ساعت سعد ہو اور نام
مطلوب مع والدہ تحریر کر کے شب
آگ میں ڈالیں مطلوب حاضر ہو

نقش محبت والفت

اگر چاہے کسی سے دوستی
یا محبت یا شادی کرنا
تو العشق مہربان چاہے
یا تو مطلوب کے دل میں
الفت و محبت پیدا کرنا
چاہے تو اس طلسم کو کاغذ
یا جامہ مطلوب پر لکھ کر
روغن زیتون میں جلا کر
شب دوشنبہ یا پنجشنبہ کو پہنا کریں بہت موثر ہے

محبت ...

... کوئی صاحب
... کسی سے
... اس ... ہوا اور ...
... آپس ...
... جمعرات ... شب
... بہت موثر ہے


نسخہ طلب فرزند

طلب فرزند کا یہ نسخہ عمل جناب سے ... صاحب

کا ہے
اور کہا
دانیال
سے افضل
کر داخل
اگر چاہے
کہ فرزند
نرینہ ہو
نیک صالح
خدا تعالیٰ
اس عمل

کی وجہ سے فرزند نیک اور صالح عطا کرے گا دوران عمل
یا غنی وانا غنیا پڑھتا رہے ایک لوح طلا پر بنالے
ساعت سعد ہو بعد اس کے تیار کرنے کے رجوع کرے
اور طالب اس لوح کو اپنے بازو راست سے باندھے


۷۷۹۹



وظیفہ = ان اللہ علیم الخبیر 777 مرتبہ

فائدہ طریقہ: استخارہ کے لیے اس وظیفہ کو جمعرات کو سونے سے پہلے 777 مرتبہ پڑھیں جب وظیفہ پڑھیں دائرہ
اس پر دھیان رکھیں

الفتح :




اگر آپ مستقبل قریب کے بارے میں کچھ بھی جاننا
چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ۹۹۹ دائرۃ السین پر دھیان
کرتے ہوئے پڑھیں بہت سی باتیں آپ کے دل پر
اترنا شروع ہو جائیں گی اور آپ روحانیات کی وجہ سے
جان لو گے جو چاہتے ہو

ح القاف :


وظیفہ: ق والقرآن المجید : 693

ت اور روحانی طاقت کے حصول کے لیے یہ وظیفہ 693
مرتبہ ۱۱ دن پڑھیں اور درمیان الحمد پر رکھیں حاضرہ
الحمد ارتکاز ذہن اور دماغ تیز ہوتا ہے آپ کی
نوٹ ارتکاز اس وظیفہ سے بڑھے گی -


مصباح الذاریات : ۵۶



اگر آپ کی کوئی خواہش یا آرزو ہے اس نقش کو بلاس
اور وظیفہ ۱۸۶ مرتبہ ۱۱ دن پڑھیں اور درمیان قرآن پاک
پر رکھیں آپ کی ہر خواہش پورا ہوگی - وہ اہل اللہ
بلنا قبل اور دستا قبل اس عمل کے موکل ہیں جو آپ
کی رہنمائی اور ہدایت کریں گے



اگر آپ دانش اور علم حصول چاہتے ہیں کتاب رحمان قرآن
مجید سے ۔ تو یہ وظیفہ 92 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں
شروع کریں ۔ بعد ایام 40 آپ
اور انشاء اللہ مختلف ہر طرح سے سمجھ پائیں گے
قرآن حکیم کو بہت سمجھ پائیں گے



وظیفہ: ولاحول غنیم = 777


اگر آپ لوگوں میں استغنا پانا چاہتے ہیں اور منجب خلقت کے طلبگار
ہیں تو یہ وظیفہ 777 مرتبہ 40 دن پڑھیں اور صبح شام بلند
پڑھ دھیان کریں گے تو دل و دماغ پر وجدانی ہوگا اور
خوبصورت دنیاوی سے بے نیاز ہو جائیں گے ۔ لوگ آپ کے طلبگار
ہوں گے اور آپ دنیوی آسائشوں سے بے نیاز ہو جائیں
گے ۔ اور سفر روحانی حاصل کریں گے


قفل عرش

وظیفہ: یا اللہ
یا اللہ یا اللہ۔

اگر آپ روحانی منفعت اور منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفہ 333 مرتبہ تلاوت کریں اور درمیان آپ اسے لا احرت کے کلف پر دیکھیں۔ آپ ایک روشن ذرہ روشنی دائرہ میں دیکھیں گے۔ جو لمحہ میں سفید روشنی میں بدل جائے گا اس میں ایک اعداد روحانی لہریں ہیں جو آپ کی روحانی و جسمانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں۔ پر پھر بھی سرشتن میں بھی فائدہ دیتا ہے آپ دل میں سکون اور راحت محسوس کریں گے

اللہ کافی — اللہ سمیعُ — اللہ علیمُ
اللہ شافی — اللہ رفیعُ — اللہ عظیمُ
اللہ معافی





وظیفہ 999

دل سے استغفار میں ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے تو یہ وظیفہ 999 مرتبہ 90 دن پڑھیں۔ اور کتاب الاسرار کھلنے کا انتظار کریں آپ کی ہر پریشانی پانی ہو جائے گی برف پگھل جائے گی اور دل مطمئن شاد رہے گا۔ اور زندگی کی گلستان خوش قسمتی اور خوشحالی سے سج جائے گی

اللہ مالک اللہ ... اللہ ملکُ

قفلِ جادو

اور یہ وظیفہ ۷۷ مرتبہ پڑھیں۔ اور درمیان میں الف پر رکھیں آپ
کے نصیب و غائب اپنے ہوئے بھولے کے پاس گھر آئیں گے
اگر آپ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو
یہ وظیفہ ۱۹۹ دفعہ الف پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں ۱۵۰ اب آپ کا مستقبل
آپ پر عیاں ہو گا

قفلِ حدید

قفلِ حدید۔
وظیفہ: لا ہو ملک السموات والارض۔ ۹ دفعہ۔
اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے گھر سے نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں تو اس نقش کو کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں اور یہ وظیفہ ۹ مرتبہ پڑھیں۔ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ دے سکے گا۔ نہ ہی جسمانی زخم آپ کو آئے گا۔ اور آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے تو اس وظیفہ کو ۷۷۷ مرتبہ ۱۴ دن پڑھیں اور درمیان کشف پر رکھیں اور یہ لوح اپنے پاس رکھیں

مفتاح الرحمٰن:

وظیفہ تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام:

اگر آپ کچھ کوئی مسئلہ ہے تو بہت مفید ہے یہ لوح کو بکس پہ نقش لعمران سے شامل آپ خالی بوتل میں پانی ڈال کر یہ نقش




اس میں ڈال دیں۔ اور یہ پانی ۱۴ دن تک پییں جب پانی ختم ہو جائے تو پھر بوتل بھر لیں۔ ۱۶ دن بعد نقش کو بوتل میں نہ چھوڑیں مثل باتیں آپ کسی نام جمالی وہ حال سکیں ختم ہو لگے اور اگر آپ کی کوئی بھی خواہش ہو تو اس وظیفے کو ۷۸۶ مرتبہ ۱۴ دن پڑھیں۔ اور دھیان کھول کر رکھیں ہر خواہش پوری ہوگی علاوہ ازیں اس کلام سے آپ منفعت بھی حاصل کر سکتے ہیں



روحانی بہت بہتر
اپنا مراقبہ ہر روز پڑھیں اس کی عبادت سے روحانی وظیفہ
دھیان کر کے ہو ۱۲ سلسلہ بعد اس کو اپنی
اور نشانہ بہتر روحانی نقش اپنے پاس رکھیں
اور لعاب ... ہاتھ سے ... محمود
لب ... اس نقش کو نقل ...

مصباح الثمری



وظیفہ
یا ملک یا مغنی
۹۹۹
آپ کی کوئی خواہش
دبی ہوئی پوری نہ ہو رہی
ہو یا شادی نہیں
ہو رہی ہو رکاوٹ ہو
یا پسند کی شادی میں
بڑی پابندی سے یہ وظیفہ ۱۷ دن ۹۹۹ مرتبہ
روزانہ پڑھیں اول و آخر درود پڑھیں۔ آپ کی خواہشات کی
تکمیل ہوگی اور یہ نقش آپ جیب میں رکھیں۔ کوئی
دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ہر خوف اور ڈر
آپ سے دور ہو جائے گا



اگر روحانی قوتوں کو حاصل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے تو
یہ وظیفہ ۷۲۰ مرتبہ ۴۰ دن پڑھیں اول و آخر درود [illegible] القدس
[illegible] جبرائیل کو دیں آپ ہر معاملے
[illegible] ثواب حضرت جبرائیل
[illegible] سمجھ و فہم حاصل کر لیں گے

قفلِ غیبات

...دماغ
...ہے
...ین انسانی
...رہ انسانی
...چل رہا ہے
...انے کے ہے

۱۱۲۲ دفعہ ۲۱ دن تک پڑھیں اور درمیان عجائب
...لیف کسی کی غیبات اور سوچ جانئے
...رکھیں ۴۰ دن بعد جب کو ۹ اور دفعہ پڑھیں ۱۵ آپ دوسروں
...ضرورت ہو اس وظیفہ سے
...زمین کے متعلق جان جائیں گے

۱۷

قفلِ حفزا

قفلِ حفزا

وظیفہ

وللّٰہ جنود السمٰوٰت والارض

اگر آپ دینی و دنیوی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفہ کو روزانہ ۹۲۷ مرتبہ پڑھیں اور درمیان حفزا پر رکھیں


قفل میاسر

وظیفہ


نٓ والقلم وما یسطرون

بار جسم = ۳۰۱

اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں تو یہ وظیفہ ۳۰۱ مرتبہ ۹ دن تک پڑھیں۔ آپ زندگی میں خوشیاں پائیں گے اور آپ کو ہمیشہ سکون روحانیت میں کامیابی ملے گی۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائرہ پر دھیان رکھیں۔ اگر آپ کو سر درد کی مسلسل شکایت ہے تو یہ نقش روزانہ ۹ دفعہ لکھیں سر درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کی سر درد کی شکایت ختم ہو جائے تو نقش لکھنا بند کر دیں۔ نقش لکھتے وقت دائرہ نہ لکھیں۔



قفل مغنی




... عمل ... ربانی ... وفق ... برزوالکلم ... بے نیاز ... پڑھ کے یہ وظیفہ ۱۶ مرتبہ ... تک پڑھیں اور یہ دائرۃ النقط ... دیکھیں۔ تمام ذہنی و جسمانی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ حالت ٹینشن میں ہیں تو آپ کو اس کا علم عطا ہوگا۔ اور اگر آپ کی روحانی و جسمانی صفائی ہو گی تو آپ اپنے انسان میں جسم اور دماغ سے اور علم لدنی حاصل کر سکتے ہیں


قفل تحریر

وظیفہ

یا مولا یا علیم
یا حکیم یا کافی



اگر آپ مریضہ ہیں تو
ہر فرلینت ۷۸۶ دفعہ
۱۶ دن تک پڑھیں
اور تو جب جیب پر رکھیں۔ اور نقش ۱۶ دن تک 7 مرتب
لکھیں حیض نہیں لگتا۔



ملک

ن الذی بیدہ ملکوم

ر آپ کی کوئی خواہش
ب ہے تو
ینہ ۱۹۹۹ ۹ دن
رمیں اور دھیان
یلہ پر رکھیں۔
نقش ۹ دفعہ روزانہ لکھیں۔ ۹ دن۔ آپ کی ہر خواہش
پوری ہوگی

اللہ ھو الحکیم
اللہ

قفلِ اسرائیل

وظیفہ:

اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیءٍ قَدِیر

غربت اور معاشی پریشانی سے نجات کے لیے اور غم سے چھٹکارہ کے لیے یہ وظیفہ 298 مرتبہ 9 دن تک پڑھیں۔ اور روز صبح پھر لکھیں۔ اور کاغذ پر 7 دن 7 نقش روز لکھیں آپ معاشی بدحالی سے نجات پائیں گے اور خوشحال زندگی گزاریں گے

قفلِ کعبہ:

قفلِ کعبہ … اعمال … استعمال ہوتا … کی کوئی … کوئی حرف … اس کے نیچے

ترکیب:-

… اس قفلِ کعبہ سے ہر عمل اور کام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ابجد … اعداد کا حساب اس کے نیچے لکھیں اور اپنا نام xx نشان … والے کے نیچے لکھیں تو عمل میں اثر پیدا ہو جاتا ہے … نشان والے کے نیچے اپنے نام کے اعداد … لکھیں۔ اور دوسرے خانہ میں اپنا مقصد لکھیں۔ اور ہر دن صبح … مقصد حاصل ہوگا سفلی عاملین سے اس کو عیاں رکھیں۔ … قفل ہے کسی بھی چیز کو بستہ کر سکتے ہیں۔ عشق میں … کرتا ہے۔ مگر ناحق اور ناجائز عمل نہ کریں

مثلث الف

وظیفہ:
اجیب یا الف یا الف
یا الف = ۹۹۶

اگر آپ ملکوتی صفات
پانا چاہتے ہو تو
یہ وظیفہ 999 دفعہ 11
دن تک پڑھیں
اور توجہ دائرہ پر رکھیں - اگر آپ اس کے عامل بنا چاہتے
ہیں تو - یہ وظیفہ 777 دفعہ ۴۰ دن پڑھیں - اور روزانہ ۱۹ دفعہ
نقش بنائیں - ۴۰ دن بعد آپ اس کے عامل ہو گے - اور یہ
عمل آپ کے خواہش مطابق عمل کرے گا - کسی بھی شخص کو کسی بھی
مقصد کے لیے یہ عمل دیں اور عجائب دیکھیں

مثلث الباء

اجیب یا با یا با یا با
یا با سریع
[illegible] علمی حاجت
رکھتا ہے علم لدنی
کے لیے یہ وظیفہ
777 مرتبہ 9 دن
پڑھیں یہ نقش 17 دفعہ 9 دن تک بنائیں - آپ علم
روحانی حاصل کر لو گے - وظیفہ پڑھتے وقت دھیان
مکاشفہ پر رکھیں

لوحِ جیم:

اُجیبُ یا جیم

یا جیم:

مثلث جیم

اگر آپ مطلوب کو
بلانا چاہتے ہوں
تو جس کا نام جیم سے شروع ہوتا ہو۔ اور آپ اس کے
دل میں پیار ڈالنا چاہتے ہوں تو یہ وظیفہ 188 مرتبہ 16 دن
تک پڑھیں۔ توجہ الصوت پر رکھیں۔

... ش (ح)

مثلث (ح)

وظیفہ:
یا حا یا حا
[illegible] یا کیا حل

اگر آپ پلے حاصل
کرنا چاہتے ہو تو
یہ وظیفہ 792 مرتبہ 16 دن پڑھیں اور توجہ دائرہ
پر رکھیں۔ اس وظیفہ سے آپ ہنر اور سکون بھی
پائیں گے۔ روزانہ 16 انفاس 16 مرتبہ رکھیں

لوح الدال :
یا دال یا دال
یا دال اُجیب
بحق یا جبرائیل ؑ


کسی کے دل میں اپنا
پیار پیدا کرنے کے
لیے یہ وظیفہ 792 دفعہ 16 دن تک پڑھیں اور تین [illegible] پڑھیں - تو جب وضو پر رکھیں - 7 دن تک روز 7
دانتوں پر رکھیں - اور روز 16 نقش 16 دن تک کریں - آپ [illegible] رکھیں ہر پریشانی اور غم ختم ہوگا -
اس عمل کے دوران روحانی کشف بھی حاصل کر دیں گے

مثلث الدال



مثلث الذا
یا ذا یا ذا یا ذا
[illegible]جیب بحرمۃ جبرائیل ؑ

[illegible] ہر پریشانی مصیبت
[illegible]ور دکھ میں پڑھ وظیفہ
792 دفعہ 9 دن



کتاب الرا

یارا یارا یارا
اومیث بجق یا
وبیا کتیل

کتاب الرا

ر ۲۰۰	ر ۲۰۰
ر ۲۰۰	ر ۲۰۰
ر ۲۰۰	ر ۲۰۰
ر ۲۰۰	ر ۲۰۰

۲۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰۰۰	۸۰۰۰	۱۰۰۰۰
۱۲۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۸۰۰۰	۲۰۰۰۰
۲۲۰۰۰	۲۴۰۰۰		۲۶۰۰۰	۲۸۰۰۰
۳۰۰۰۰	۳۲۰۰۰	۳۴۰۰۰	۳۶۰۰۰	۳۸۰۰۰
۴۲۰۰۰	۴۴۰۰۰	۴۶۰۰۰	۴۸۰۰۰	۵۰۰۰۰

روحانیت حاصل کرنے
کے لیے یہ وظیفہ
648 مرتبہ ۱۶
دن تک پڑھیں۔ اور اس نقش کو X نشان پر رکھیں
یہ اجبہ نورانی میں سے ہے

...ب الخا۔

کتاب الخا


۶۰۰ ع	۶۰۰ ع
۶۰۰ ع	۶۰۰ ع
۶۰۰ ع	۶۰۰ ع
۶۰۰ ع	۶۰۰ ع

۶۰۰	۱۲۰۰	۱۸۰۰	۲۴۰۰	۳۰۰۰
۳۶۰۰	۴۲۰۰	۴۸۰۰	۵۴۰۰	۶۰۰۰
۶۶۰۰	۷۲۰۰		۷۸۰۰	۸۴۰۰
۹۰۰۰	۹۶۰۰	۱۰۲۰۰	۱۰۸۰۰	۱۱۴۰۰
۱۲۰۰۰	۱۲۶۰۰	۱۳۲۰۰	۱۳۸۰۰	۱۴۴۰۰

...خا یا خا یا خا
...ب بجق
...یدہ کا تمیل

...اب کسی سے
...ن کھاتے ہیں۔ اور آپ بے حد گبھراتے اس سے
...تے ہیں تو یہ وظیفہ 999 دفعہ پڑھیں اور نقش پر دم
...رکھاتے پاس رکھیں۔ اپنے گھر میں بھی ڈال سکتے ہیں
...ظیفہ پڑھتے X نشان والی جگہ پر دھیان رکھیں

یا ذال یا ذال
یا ذال یا ذوالجلال
والاکرام ۔




۷۰۰۰	۱۴۰۰۰	۲۱۰۰۰	۲۸۰۰۰	۳۵۰۰۰
۴۲۰۰۰	۴۹۰۰۰	۵۶۰۰۰	۶۳۰۰۰	۷۰۰۰۰
۷۷۰۰۰	۸۴۰۰۰	۹۱۰۰۰	۹۸۰۰۰	۱۰۵۰۰۰
۱۱۲۰۰۰	۱۱۹۰۰۰	۱۲۶۰۰۰	۱۳۳۰۰۰	۱۰۷۰۰۰
۱۵۶۰۰۰	۱۹۲۰۰۰	۱۹۸۰۰۰	۱۷۵۰۰۰	۱۸۲۰۰۰

کسی بھی خواہش یا حسرت کے لیے یہ مؤکلِ نقش ۷۹۰ دفعہ ۹ دن
تک پڑھیں ۔ اور توجہ نجم پر رکھیں ۔ آپ کی خواہش پوری
ہوں گی ۔ اس نقش میں اسمِ اعظم ہے ۔ ۹ دن ۹ مرتبہ
اس نقش کو بنائیں



...ر ۹ تمام اعداد
...سے
...ں سب
...ش ربط ہے
...ا الجھ میں

...ں طا بہت طاقتور حرف ہے ۔ اگر آپ حادثات اور
...شمنوں سے بچاؤ نحوست ستارگان سے بچنا چاہتے
...تو چاندی پر ۔ اس نقش کو لکھ کر چاندی کی انگوٹھی میں
...ال کر اپنے دائیں ہاتھ میں پہنیں ۔ آپ کے دشمنوں
...ر آپ کا رعب و خوف طاری ہوگا ۔ وظیفہ ۵۸ مرتبہ
...زانہ ۹ دن پڑھیں



یا واو یا واو یا واو
اجب و بحق یا جبرائیل

اگر آپ رب کی
رحمت کے خاص طلب گار
بننا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ 188 مرتبہ ۱۶ دن تک پڑھیں
اور نماز ظہر پڑھ لیں - ۹ دن تک نقش روز لکھیں
آپ رحمتوں کی برسات میں خود کو نہاتا محسوس کریں گے



یا کاف یا کاف یا کاف
اجب و بحق میکائیل

ز کاف خداتعالیٰ
ے رازہائے سربستہ
یں سے ایک راز ہے - کفایت کے لیے یہ وظیفہ
1000 مرتبہ ۱۶ دن تک پڑھیں -
ور نقش ۹ وقت ۱۶ دن تک لکھیں

مثلث الحا

یاحا یاحا یاحا

اجیبُ و تحق جبرائیل



جن یا پری کی تسخیر کے
لیے یہ وظیفہ
999 مرتبہ ۱۶ دن تک پڑھیں - تسخیر محبوب کے لیے 777
مرتبہ ۱۶ دن پڑھیں - ہر اس وقت کائنات کا ایک
بہت طاقتور وظیفہ ہے - اور بہت جلالی عمل ہے
کسی بھی راز کو جاننے کے لیے ۹۹ مرتبہ ۱۶ دن پڑھیں -
وظیفہ پڑھتے وقت توجہ مکاشفہ پر رکھیں -

اللہُ ظاہرُ   اللہُ آخرُ
اللہُ باطنُ
اللہُ اولُ

کتاب النون

ن	ن
ن	ن
ن	ن
ن	ن

۵۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰
۲۵۰۰	۳۰۰۰	۳۵۰۰	۴۰۰۰
۴۵۰۰	۵۰۰۰	۵۵۰۰	۶۰۰۰
۶۵۰۰	۷۰۰۰	۷۵۰۰	۸۰۰۰
۸۵۰۰	۹۰۰۰	۹۵۰۰	۱۰۵۰۰

یانونُ یانونُ
اجیبُ و تحق جبرائیل

تسخیر روحان
اور جان کے لیے
یہ وظیفہ 777
مرتبہ روزانہ پڑھیں
اور توجہ محراب پر
رکھیں - نون کی حقیقت نور کی صورت میں عیاں ہوگی
یہ حروف مقطعاتِ قرآنی میں سے ہے



یا یا یا اَجِبْ
بحق جبرائیل یا محمد
یا احد یا احد۔

اگر آپ بھی شہرت و معزز
عزت اور دولت
حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ۱۹ دن ۱۸ مرتبہ
دفعہ پڑھیں اور توجہ سے جوف پر رکھیں۔ روزانہ ۱۹ النقش
۱۹ دن تک لکھیں



یا مآ یا مآ یا مآ
اَجِبْ بحق
میکائیل

نا کا عدد 80 ہے

اپنے دشمنان کے سبب یہ وظیفہ 660 مرتبہ ۱۹ دن تک
پڑھیں۔ اگر کوئی گھر سے بھاگ گیا ہو۔ تو اس کو
تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ 770 مرتبہ 7 دن تک پڑھے
ضرور گھر واپس آئے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے
زمہ قلب پر رکھیں۔

یا صاد یا صاد
یا صاد اجب
بحق حمید کائیل۔

کوئی بھی نیا کام
شروع کرنے سے
پہلے یہ وظیفہ

نقش الصاد

۹۰۰	۱۸۰۰	۲۷۰۰	۳۶۰۰	۴۵۰۰
۵۴۰۰	۶۳۰۰	۷۲۰۰	۸۱۰۰	۹۰۰۰
۹۹۰۰	۱۰۸۰۰	۱۱۷۰۰	۱۲۶۰۰	۱۳۵۰۰
۱۴۴۰۰	۱۵۳۰۰	۱۶۲۰۰	۱۷۱۰۰	۱۸۹۰۰
۱۹۸۰۰	۲۰۷۰۰	۲۱۶۰۰	۲۲۵۰۰	۲۳۴۰۰

۱۰۰۰ دفعہ پڑھیں۔ یا اللہ تعالیٰ سے اس کام کے لیے اجازت لیں علم لدنی کی ابتدا ہے۔ جو علم کے لیے یہ وظیفہ
طلب کرنے کے لیے ہے۔ آپ کو اجازت عالم ملکوت ۱۱ سے ۲۱ دن پڑھیں۔ اور توجہ قلب پر رکھیں
سے حاصل ہوگی۔ اور اگر یہ کام روحانی دنیا سے منظور ۱ دن روزانہ ۱۱ نقش لکھیں۔ آپ کو علم لدنی کا کچھ حصہ ملے گا
ہو گیا تو بہت کامیاب ہوگا نہیں تو نہ۔ جب وظیفہ پڑھیں
توجہ دائرہ پر رکھیں

یا عین یا عین
یا عین اجب
بحق سیکائیل

عین کی قوت عددی
ہے۔ اور یہ
جلالی حرف ہے

کتاب العین

۷۰۰	۱۴۰۰	۲۱۰۰	۲۸۰۰	۳۵۰۰
۴۲۰۰	۴۹۰۰	۵۶۰۰	۶۳۰۰	۷۰۰۰
۷۷۰۰	۸۴۰۰	ع	۹۱۰۰	۹۸۰۰
۱۰۸۰۰	۱۱۲۰۰	۱۱۹۰۰	۱۲۶۰۰	۱۳۳۰۰
۱۴۰۰۰	۱۵۴۰۰	۱۶۱۰۰	۱۶۸۰۰	۱۲۵

یاسین یاسین
یاسین اُجب
بحق جبرائیل

کتاب الیسی

۶۰۰	۱۲۰۰	۱۸۰۰	۲۴۰۰
۳۰۰۰	۳۶۰۰	۴۲۰۰	۴۸۰۰
۵۴۰۰	۶۰۰۰	۶۶۰۰	۷۲۰۰
۷۸۰۰	۸۴۰۰	۹۰۰۰	۹۶۰۰

یٰسین کی عدد قوت
۱۲ ہے۔ اور
یہ قرآن پاک
میں سورۃ یٰسین
میں آیا ہے حروف مقطعات سے ہے۔ جمیع حاجات کے
حصول کے لیے یہ وظیفہ ۹۹۹ مرتبہ ۹ دن پڑھیں تو جب [illegible]
پڑھ کر دیکھیں۔ روزانہ ۹ دن ۹ نقش لکھیں۔ بدخوابی کے لیے
یہ نقش اپنے پاس رکھیں یہ آپ کے خوابوں پر نظر رکھے
خواب آپ کو سچے آئیں گے یہ مذاق نہیں حقیقت ہے
خواب سچے آئیں گے

یاشین یاشین
یاشین اُجب
بحق میکائیل

کتاب الیشن

۳۰۰۰	۶۰۰۰	۹۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۵۰۰۰
۱۸۰۰۰	۲۱۰۰۰	۱۴۰۰۰	۲۷۰۰۰	۳۰۰۰۰
۳۳۰۰۰	۳۶۰۰۰	۳۹۰۰۰	۴۲۰۰۰	۴۵۰۰۰
۴۸۰۰۰	۵۱۰۰۰	۵۴۰۰۰	۵۷۰۰۰	۶۳۰۰۰
۶۶۰۰۰	۶۹۰۰۰	۷۲۰۰۰	۶۰۰۰۰	[illegible]

[illegible] مطلوب حاصل
کرنے کے لیے یہ
۷۷۷
وظیفہ
۱۶ دفعہ ۱۶ دن
[illegible] کے لیے پڑھیں۔ اور جب ۷۷۷ دوسے نشان پڑھ لیں اور نقش روز
۱۶ دفعہ لکھیں۔ کشف قبور کے لیے یہ وظیفہ ۹۹۹ مرتبہ
روز پڑھیں اور جب ۷۷۷ پڑھ لیں۔

کتاب الغفار

یا غفار یا غفار
یا غفار احب و
لحق یا ودود اجیل

۳۲۰۰۰	۲۴۰۰۰	۱۶۰۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰
۷۲۰۰۰	۶۴۰۰۰	۵۶۰۰۰	۴۸۰۰۰	۴۰۰۰۰
۱۱۲۰۰۰	۱۰۴۰۰۰	۹۶۰۰۰	۸۸۰۰۰	۸۰۰۰۰
۱۵۲۰۰۰	۱۴۴۰۰۰	۱۳۶۰۰۰	۱۲۸۰۰۰	۱۲۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	۱۹۲۰۰۰	۱۸۶۰۰۰	۱۷۶۰۰۰	۱۶۸۰۰۰

اگر آپ کو کوئی
سا بھی کالا جادو مسئلہ ہے
تو یہ وظیفہ
777 مرتبہ روزانہ 14 دن تک پڑھیں۔ اور توجہ آپ
پر رکھیں۔ یہ کتاب الغفار زعفران سے لکھ کر اپنے پاس
رکھیں۔ اور پانی میں ڈال کر وہ پانی روزانہ پئیں انشاءاللہ
شفاء حاصل ہوگی۔

کتاب القاف

یا قاف یا قاف
یا قاف احب و لحق
ودود اشل و یا قدیر و

۵۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰
۱۰۰۰۰	۹۰۰۰	۸۰۰۰	۷۰۰۰	۶۰۰۰
۱۵۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۱۰۰۰
۲۰۰۰۰	۱۹۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۷۰۰۰	۱۶۰۰۰
۲۶۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲۲۰۰۰

حرف قاف قرآن پاک
کے حروف مقطعات سے
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت عجیب و غریب و حیران
کن تخلیق ہے قاف۔ قلب سے ہے اور قاف قلب
سمندر سے گھیرا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے علم ہیں علم جلی
اور علم ذہنی۔ بزرگ صوفیا اور انبیاء کا علم القلب ہے
قرآن مجید بھی سرکار دو عالم کے دل اطہر پر اترا تھا
قاف صفت نورانی حرف ہے۔ اور اب میں اگر آپ
معجزانہ شخصیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ

۹۶

۹۵

799 مرتبہ ۱۶ دن تک پڑھیں اور توجہ مقصد پر رکھیں
7 نقش روز ۱۶ دن تک لکھیں۔
اس عمل روحانی کو رات کو سونے سے پہلے روز
کریں بہت اعلیٰ و ارفع عمل ہے۔

تمت بالخیر

کتب خانہ شانِ اسلام
راحت مارکیٹ اردو بازار
لاہور — پاکستان
042-37351120
0321-4363585